

جوانوروں کے

طبی اور روحانی فائدے

مع جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر

مترجم
مولانا سید محمد شفیع

ایڈیٹر ماہنامہ طلسماتی دنیا دیوبند

پبلشرز: مولانا سید محمد شفیع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے

مع جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر

محمد شبیر قادری

مرتب

مولانا حسن الہاشمی

(فاضل دارالعلوم دیوبند)

ناشر

مکتبہ روحانی دنیا، محلہ ابوالعالی، دیوبند ۲۴۷۵۵۴

انتساب

اُن جانوروں کے نام جو اپنے مالک کا
حق وفاداری ادا کر کے انسانوں کے
لئے وجدِ عبرت ثابت ہوتے ہیں

حسن الہاشمی

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام کتاب : جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے

Janwaron Ke Tibbi Aur Roohani Faide

نام مرتب : مولانا حسن الہاشمی

کمپوزنگ : عمر الہی

تصحیح : دانش عامری

سرورق : دانش عامری

پہاہتمام : ابو سفیان عثمانی

پرپریس : کیپٹل آفسیٹ پریس، دیوبند

Capital Offset Press, Deoband

تاریخ اشاعت : جون ۲۰۰۷ء

قیمت : 45/- روپے

ناشر

مکتبہ روحانی دنیا، محلہ ابوالعالی، دیوبند 247554 یو پی

Maktaba Roohani Dunya (Regd.)

Moh. Abulmali, Deoband-247554 Ph: 01336-224455

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۷

پیش لفظ

بھجے از قلم: مولانا حسن البہاشی

إِنَّ الدُّنْيَا خَلِيقٌ لِّكُنْهٍ: بے شک دنیا کی ہر چیز انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ کیا زمین کیا آسمان۔ کیا زمین کے ذرے اور کیا آسمان کے ستارے اور کیا جاندار اور سورج ہر ایک چیز انسان کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے اور وہ اپنی پیدائش کے روز اول سے انسان کی خدمت میں مشغول و متہمک ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ خلافت جس سے باعوم، ہم نغرت اور وحشت کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وہ کھاد بن کر اناج کی پیداوار میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ رخن درجیم کی قدرت کاملہ کے قربان چاہئے کہ اس نے خلافت جیسی کھٹیا چیز کو بھی انسانی خدمت کے لئے وقف کر دیا ہے اور چون کہ یہ خلافت انسان کو فائدہ پہنچانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اسی لئے اہل دنیا کی نظر میں اس کی بھی ایک قیمت متعین ہے اور اس کو بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔

اسی طرح پروردگار نے جانوروں کو انسانوں کی خدمت کے لئے پیدا کیا ہے۔ ہزاروں حیوانات مختلف انداز سے انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے، کوئی گوشت فراہم کر رہا ہے، کوئی دودھ دے رہا ہے اور کوئی شہد جیسی نعمت عطا کر رہا ہے۔

اونٹ، بھینس، بکریاں، گائے اور ان جیسے دیگر جانور انسان کو گوشت اور دودھ فراہم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کے اربوں کھریوں انسان روزانہ گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ وہی استعمال کرتے ہیں اور یہ تمام نعمتیں جانوروں کی مہربانی سے ہیں۔

اربیوں کھریوں مرغیوں روزانہ لاقعدا اٹھنے دیتی ہیں اور ان انڈوں کو انسان

فہرست مضامین

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۲	مرغی	۳۷	کبوتر	۳۸	شکر
۵۳	مکڑی	۳۸	کچھوا	۳۹	شیر
۵۵	کبھی	۳۹	گدھ	۴۰	طوطا
۵۵	مگر چھ	۴۰	گیدڑ	۴۱	عقاب
۵۶	مور	۴۱	گینڈا	۴۲	فانتہ
۵۷	مینڈھا	۴۲	لومڑی	۴۳	قمری
۵۸	ہاتھی	۴۳	مچھلی		
۶۰	بہد	۴۴	مرغابی		
۶۲	ہرن				



جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۸ مکتبہ روحانی دنیا، دیوبند

مختلف انداز سے اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ سمندر کی چھیلیاں بھی انسان کے لئے وسیلہ غذائی ہوتی ہیں، جنگل کے جنگلی جانوروں، مثلاً شیر، بھگلی، بھینس، گائے، ہرن اور تتر، بٹیر جیسے بے شمار جانوروں سے بھی انسان کسی نہ کسی طور پر مستفید ہوتا رہتا ہے۔

شیر کی کھال انسان کے لئے تاملین کا کام دیتی ہے۔ ہاتھی انسان کا بوجھ اٹھا رہا ہے، ریچھ کو انسان سرسوں پر نچا کر اپنی روزی فراہم کر رہا ہے، نسل گائے اور ہرن جیسے جانوروں کا گوشت انسانوں کے لئے مرغوب طبع کی حیثیت رکھتا ہے۔ تتر، بٹیر، مرغائیاں اور لاتعداد پرندے بھی انسان کے لئے لذت دہن بنے ہوئے ہیں۔ ریشم کی کڑھ انسان کے لئے اعلیٰ لباس کی تیاری میں مصروف نظر آتا ہے۔ گدھا روز اول سے انسان کا بار بردار ہے۔ گھوڑے اور خیرچر کی طرح آج بھی انسان کے لئے سواری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ کتے اپنی وفاداری کے ذریعہ انسان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اور اب تو اس مخلوق سے جاسوسی کا کام بھی لیا جانے لگا ہے۔ اعلیٰ قسم کے چوہے دان بھی جب چوہے پکڑنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر انسان کو یہ کام بلیوں سے لینا پڑتا ہے۔ جن گھروں میں بلیاں ہوتی ہیں وہاں سے چوہے فرچکر ہو جاتے ہیں، اسی طرح بلیاں بھی انسان کے لئے مفید ترین ثابت ہوتی ہیں۔

دیوبند پر چلنے پھرنے والی بچھیاں بری محسوس ہوتی ہیں لیکن اگر یہ گھر میں نہ ہوں تو گھر زہریلے کیڑوں سے بھر جائے۔ اللہ نے چھچھکی کو پیدا کیا تاکہ یہ ان زہریلے کیڑوں کو لوٹ کر لے جاسکے۔ انسان کے لئے مفید ہوں۔ تحقیق سے یہ بات صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ جن علاقوں میں کھیاں نہیں ہوتیں وہاں بچھک، کسمیرا، طاعون اور دیگر وبائی بیماریاں پوری شدت کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کھیاں جیسے بظاہر بے مصرف جانور کو پیدا کر کے اس سے بھی انسانی خدمت کا کام لے لیا ہے۔ چنانچہ کھیاں ان جزائیم کو ختم کر لیتی ہیں جو انسانی صحت کے لئے نقصان دہ ہوں۔

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۹ مکتبہ روحانی دنیا، دیوبند

سانپ، بچھو، بیولے اور کیکڑے جیسے موذی جانور بھی انسان کی روزی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان موذی جانوروں سے نکالے گئے تیل، پھوڑے اور پھتسیوں میں مفید ثابت ہوتے ہیں اور بعض زہریلی بیماریوں کے اثرات کو ختم کرنے میں تریاق کی حیثیت رکھتے ہیں۔

کبوتر، طوطے، چڑیا، مینا، فاختہ اور عقاب پال کر آج بھی انسان اپنے ذوق کی تکمیل میں لگا ہوا ہے بلکہ مغربی ممالک میں اب جانور پالنا تو مستقل ایک فیشن بن چکا ہے۔ مور کے پروں سے آج بھی دیواریں سجائی جاتی ہیں، جیلوں اور گدھوں کے پر آج بھی گل دستوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔

بیروں میں چڑے کا جوتا، ہاتھ میں چڑے کا بیگ، جیب میں چڑے کا بٹوا، گھڑی میں چڑے کا فیٹا اور اعلیٰ اور نچی کتابوں پر چڑھی ہوئی چڑے کی جلدیں اور سر پر بالوں کی ٹوپی، جانوروں کے قرب کا پتہ دیتی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسان اور جانوروں کا چوں دامن کا ساتھ ہے۔

تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض عظیم الشان کام معمولی جانوروں سے لے لیے ہیں تاکہ اس انسان کو جو شرف مخلوقات ہے عبرت ہو اور وہ ان واقعات سے سبق حاصل کرے۔

نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا انسان اس سے ڈرتے رہے اور اس دعوے سے نہ باز رکھ سکیں لیکن ایک چمھر نے نمرود کا کام تمام کر دیا۔ آج بھی دنیا کے وہ مغرور لوگ جو خدا کے آگے نہیں جھکتے وہ رات کو چمھروں کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک چمھر کو مارتے ہیں تو اس چمھر اس کی موت کا انتقام لینے کے لئے بس مہین مہین کر کے لہرانے لگتے ہیں اور اسی تصادم اور کشمکش میں ساری رات خراب ہو جاتی ہے اور وہ مغرور انسان جس کی گردن ہر وقت تکی رہتی ہے چمھر جیسی چھوٹی مخلوق کا بھی مقابلہ نہیں کر پاتا۔

جانوروں کے پیش اور روحانی فائدے ۱۰

کتبہ روحانی دنیا و یوبند

ابراہنے جب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی ناپاک اسکیم پر عمل کرنے کا ارادہ کیا تو ابابیل کے ایک لشکر نے ابراہا کی فوج کو جو ہاتھیوں پر سوار تھی پسپا کر دیا اور نضاؤں میں ازکراتی ٹنگریاں برسائیں کہ اس کا ناک میں دم ہو گیا اور اسے ناکام و نامراد ہو کر واپس ہونا پڑا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عارثوں میں پناہ لی تو ایک کبوتری نے غار کے منہ پر اپنا جالا تان دیا اور ایک ساڑھ میں جنگلی کبوتروں نے اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ ارباب باطل اور سحر گزرے تو وہ یہ سمجھے کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ اگر داخل ہوتا تو نہ یہاں کبوتری کا جالا ہوتا اور نہ کبوتروں کا گھونسلہ۔ قیامت تک کبوتری اور کبوتروں کی دانش مندی یادگار رہے گی اور امت مسلمہ پر ان بے حیثیت جانوروں کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے حسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ابتدائی دور میں قریش مکہ سے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کو توڑنا ممکن تھا اور اس پر عمل کرنے میں مابلی اور جانی دونوں طرح کا نقصان تھا۔ عجیب طرح کی الجھن تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی اس الجھن کو دیکھنے سے حل کر دیا۔ دیکھنے سے اس کا غرک کو چاٹ لیا جس پر یہ معاہدہ تحریر تھا۔ اس طرح وہ معاہدہ کا عدم ہو گیا اور آنحضرت اور ان کے ساتھیوں کو ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی۔

اس طرح کی کیڑوں مثالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مالک کون و مکال نے معمولی جانوروں سے بھی بڑے بڑے کام لے لئے ہیں اور آج بھی حیوانات زندگی کے مختلف پنجگاموں میں انسان کے شانہ بشانہ بے شمار امور انجام دینے میں مصروف عمل ہیں۔ لیکن یہ تو جانوروں کی وہ خدمات ہیں جو ظاہر و باہر ہیں اور جن کا عمومی طور پر سمجھی کو علم ہے لیکن جانوروں سے انسان کو اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ بے

جانوروں کے پیش اور روحانی فائدے ۱۱

کتبہ روحانی دنیا و یوبند

شمار فائدے وہ جانوروں سے دانستہ یا دانستہ طور پر اٹھا رہا ہے اور بعض فائدوں سے وہ آج بھی بے خبر ہے۔ ہم انشاء اللہ اس کتاب میں پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کی نشان دہی کریں گے کہ بعض جانوروں کا گوشت کھائیں، خون، ہڈیاں اور ان کے جسم کے مختلف اعضاء انسان کی مختلف بیماریوں میں مفید ہیں۔ ہر شخص اس بات سے باخبر ہے کہ اگر کسی کو لقمے کی بیماری ہو جائے تو جنگلی کبوتر کا گوشت اور خون اس کے لئے مفید ہے اور بارہالگوں کا یہ تجربہ ہے کہ جنگلی کبوتر کا گوشت استعمال کرنے اور خون کی لیپ سے لقمے کی بیماری کبھی یا جزوی طور پر ختم ہوگی۔

ہم تفصیل کے ساتھ سیکڑوں جانوروں کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ ان کا گوشت کن کن امراض کو دفع کرنے میں تریاق کا کام دیتا ہے ہمیں یقین ہے کہ جب ان پوشیدہ صدقاتوں پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے اور اپنے مالک و رزاق کی صفائی اور کرمہ قدرت پر عیش کرنے لگیں گے اور آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جب دنیا میں ہو سکتا ہے، نرسنگ، ہوم، مطب اور شفا خانے نہیں تھے تو اللہ کے بندے کس طرح مختلف بیماریوں سے شفا پاتے تھے اور کن جانوروں کی کن کن چیزوں کو وہ بطور دوا استعمال کیا کرتے تھے۔ صرف یہ کہ جانوروں کے ذریعہ جسمانی امراض ختم ہو جاتے ہیں بلکہ بعض روحانی بیماریوں سے بھی ان کو چھکارا نصیب ہو جاتا ہے۔

بزرگوں کی تحریروں سے یہ ثابت ہے کہ بعض جانوروں کی ہڈیاں اگر ہاتھ میں باندھ لی جائیں تو یہ سحر اور نظر بد سے انسان کو محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہر حال زیر نظر کتاب میں ایسے بہت سے فارمولے تحریر کئے جائیں گے جو آپ کے لئے اور آپ کے متعلقین کے لئے مختلف امراض میں تیر بہد فائدہ ثابت ہوں گے۔

واللہ المستعان و علیہ التکلان۔

ذیل میں ہم ایسے بے شمار نئے اور فارمولے نقل کر رہے ہیں جو ہمارے قارئین کے لئے بے حد مفید ثابت ہوں گے اور ہمیں امید ہے کہ اس مضمون کے پڑھنے والے ہماری تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اس مالکِ حقیقی کے شکر گزار بنیں گے جس نے دنیا کی ہر ایک چیز کو انسانوں کی خدمت و ضرورت کے لئے پیدا کیا ہے۔

ابابیل

● ابابیل کا گوشت شرعاً حرام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے حکیم ارسطو نے لکھا ہے کہ ابابیل کی آنکھ نکال کر اگر کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی تخت یا چار پائی کے کسی پائے میں باندھ دی جائے تو جو شخص بھی اس چار پائی پر لیٹے گا اسے ہرگز نیند نہیں آئے گی۔

● اگر ابابیل کی آنکھ کو سکھا کر پیس کر پھر کسی تیل میں ملا کر کسی عورت کو پلا دی جائے تو وہ عورت تیل پلانے والے سے شدید محبت کرنے لگے گی اور اگر ابابیل کی سوچی ہوئی آنکھ چینی تیل کے تیل میں گھس کر زچہ کی ناک میں مل دی جائے تو بچے کی پیدائش میں سہولت ہوگی، اگر کسی عورت کو ابابیل کے خون کے چند قطرے پلا دئے جائیں تو اس کا زور بہت ختم ہو جائے گا۔

● ابابیل کی بیٹ آگر زخموں پر لگا دی جائے تو زخم جلد بھر جاتے ہیں، ابابیل کا پتھر پینے سے بشرطیکہ چھاپہ یاد دہ میں ملا کر پیا جائے تو سفید بال کالے ہو جاتے ہیں اور اس میں دانٹوں کے کالے ہو جانے کا بھی امکان ہے۔ اس لئے احتیاط یہ رکھنی چاہئے کہ دانت محفوظ رہیں۔

● ابابیل کے سر میں سے ایک پتھری نکلتی ہے یہ پتھری اگر کسی کے پاس ہو تو مختلف حادثات میں بفضلِ خداوندی اس کی حفاظت کرنی ہے اور جس شخص کے پاس یہ پتھری ہوگی وہ جس سے بھی محبت کرے گا اس کی محبت کا ایسا رعبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے

● اگر ابابیل کے گھونٹے کی مٹی پانی میں گھول کر پی لی جائے تو کثرتِ پیشاب کے مرض میں بے حد مفید ہے۔

اژدہا

● سانپ کی ہی ایک قسم اژدہا کہلاتی ہے، اژدہا سانپ سے بڑا اور موٹا ہوتا ہے۔

اژدہے کا شرعی حکم

● اگر اژدہے کے خون کی ماش عضو متاسل پر کر لی جائے تو مرد میں ایک عجیب طرح کی قوت پیدا ہو۔

● اژدہے کی جلی ہوئی راکھ کو شہد میں ملا کر اگر متعلقہ مقامات پر لگائی جائے تو بولسا اور بڑس کے لئے بے حد مفید ہے۔

● اژدہے کی کھال میں اگر نفرت کا تعویذ لپیٹ کر دو پرانی قبروں کے درمیان دبا دیا جائے تو فوراً اس کا اثر ظاہر ہو۔

آلو

● آلو ایک مخصوص قسم کا پرندہ ہے جو تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ لفظ آلو کا اطلاق کر اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔

آلو خصوصیت

● آلو کی عادت یہ ہے کہ ہر پرندے کے گھونٹے میں گھس کر اس کے انڈے بچوں کو نکال پھینکتا ہے اور اس گھونٹے پر اپنا قبضہ جمالیتا ہے۔ کوئی پرندہ اس کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، آلو کی خصوصیات میں ایک سے یہ ہے کہ وہ رات بھر نہیں سوتا،

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۱۴ مکتبہ روحانی دنیا پبلسر

آلو کو دن میں صاف نظر نہیں آتا سی لئے یہ دن میں سامنے آنے سے گریز کرتا ہے۔

آلو کے طبی اور روحانی فائدے

● آلو کو اگر ذبح کر دیا جائے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے۔ اس کی ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کھلی ہوئی آنکھ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کو انگلی کے ٹک کے نیچے رکھ دیا جائے تو اس کا پینے والا جب تک اسے اتار نہ دے برابر جاگتا رہے گا اور دوسری آنکھ کی خصوصیت اس کے برعکس ہے۔

● اگر کسی آلو کا دل سونے کی حالت میں کسی عورت کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو اس عورت نے دن میں جو کام کئے ہوں گے وہ تیار ہو جائے گی۔

● کسی بڑے آلو کا دل بھیڑیے کی کھال میں لپیٹ کر اگر کلائی میں باندھ لیا جائے تو باندھنے والا کبڑے کو ڈروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہے گا اور کسی غلام سے بھی اسے خوف محسوس نہ ہوگا۔

● اگر آلو کی چربی پھسلا کر آنکھ میں لگالی جائے تو رات کو سخت اندھیرے میں بھی ہر چیز نظر آئے گی۔

● یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ آلو کا گوشت دل و دماغ کو نقصان دیتا ہے اور اس کا گوشت کھانے سے آدی پاگل ہو جاتا ہے۔

● اگر کسی کو لقوہ ہو گیا ہو تو آلو کو ذبح کر کے نورانی اس کا دل لقوہ زدہ جگہ پر لگانا مفید ہے۔

● اگر آلو کے خون کو کسی بھی تیل میں ملا کر سر میں لگائیں تو اسی وقت تمام جو کھیں مر جائیں۔

● آلو کی کھال اور اس کے پر بڑے سفلی عمل میں برائے جادو استعمال کئے

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۱۵ مکتبہ روحانی دنیا پبلسر

جالتے ہیں اور ان کے ذریعہ جادو کی کاٹ بھی ہوتی ہے۔

اونٹ

● اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو وہ خون کو کاٹ دیتا ہے۔

● اگر اونٹ کی چیچڑی کسی عاشق کے دائیں بازو پر باندھ دی جائے تو اس کا عشق زائل ہو جاتا ہے۔

● کسی شرابی کا نشہ نہ ٹوٹے تو اس پر اونٹ کے پیشاب کی چھینٹیں دے دی جائیں تو فوراً نشہ ٹوٹ جائے گا۔

● اونٹ کا گوشت مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے مفید ہے۔ یہ قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے اور بچوں کو مضبوط کرتا ہے۔

● آسیب زدہ آدمی کو اگر اونٹ کی سوکھی ہوئی میٹھی سے دھوئی دی جائے تو آسیب فر ہو جاتا ہے۔

● مفرد اور لاپتہ آدمی کی بازیابی کے لئے اونٹ کی کھال پر نقش لکھ کر زمین میں دفن کیا جاتا ہے اور مفید ثابت ہوتا ہے۔

● اونٹ کا گوشت کھانے والے افراد، کینسر، ہارٹ ایک اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

● جس گھر میں اونٹ ہوتا ہے وہاں جنات کے اثرات نہیں ہوتے۔

● اونٹ کے پیشاب کو بعض موزی امراض میں دوا کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور تجربہ کے بعد مفید پایا گیا ہے، (دراصل رہے کہ اونٹ کا پیشاب شرعاً حرام ہے لیکن اگر کوئی ماہر طبیب کسی انسان کی جان بچانے کے لئے کوئی حرام چیز برائے دوا تجویز

جانوروں کے لٹنی اور روحانی فائدے ۱۷

کتیرہ روحانی دنیا، دیوبند

باز کا شرعی حکم

● باز کا گوشت شرعاً حرام ہے۔

باز کے طبی اور روحانی فائدے

● جس جگہ باز ہوتا ہے وہاں بچھو پیدا نہیں ہو سکتے اور اگر باز کے آنے سے

پہلے ہوں تو باز کے آنے کے بعد مر جائیں گے۔

● جو شخص باز کے پر اپنے پاس رکھتا ہے وہ نیک بخت سمجھا جاتا ہے اور اسے دنیا

کی سعادتیں بفضلِ رب نصیب ہوتی ہیں۔

● باز کے بچے، آنکھ، چوچ، اگر گھر میں دبا دئے جائیں تو وہ گھر مرجعِ خلافت بن

جائے۔

● باز کا پتہ سر سے میں تحلیل کر کے لگانے سے آنکھیں پانی اترنے سے محفوظ

رہتی ہیں۔

● باز اور شکرے کی بیٹ باہم ملا کر اگر عورت مقامِ خاص پر کسی تیل میں تحلیل

کر کے یپ کرے پھر شوہر سے غلطی کرے تو اس کا ہاتھ بن دور ہو سکتا ہے۔

بھجار

● اگر اس مٹی کو جس پر بھجارے گائے کے ساتھ چھنی کھا کر پیشاب کر دیا ہو کسی

کے عضو متاثر پر تھوڑی دیر کے لئے بطور یپ لگا دی جائے تو اس کی مراد نعتوں میں

زبردست اضافہ ہو جائے۔

● جس بچے کو رات کو بستر پر پیشاب کر دینے کی بیماری ہو اس کو بھجار کا مٹا

نشک کر کے سر کے میں ملا کر دینے سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔

●

●

جانوروں کے لٹنی اور روحانی فائدے ۱۶

کتیرہ روحانی دنیا، دیوبند

● کر دے تو شریعت انسان کی جان بچانے کے لئے اس کی اجازت دے دیتی ہے۔

● اسی بنیاد پر آج انگریزی دواؤں کا استعمال ہو رہا ہے۔

● اونٹ کی سواری کرنا بھی انسانی صحت کے لئے مفید ہے۔ اونٹ کی سواری

کرنے والے کو کسی ورزش اور ایکسرسائز کی ضرورت نہیں حالانکہ ورزش ہر انسان کے

لئے بے حد ضروری ہے۔

بارہ سنگھا

● اگر بارہ سنگھا کے سنگوں سے کسی جگہ دھونی دی جائے تو تمام کپڑے کھوڑے

اور موڑی جانور بھاگ جاتے ہیں۔

● اگر اس کے سنگوں کو جلا کر دانتوں میں لگا دیا جائے تو دانتوں کی زردی ختم

ہو جاتی ہے۔

● بارہ سنگھا کا خون اگر پی لیا جائے تو مٹانے کی پتھری ریزے ریزے ہو کر

پیشاب کے راستے باہر آ جاتی ہے (خون کسی بھی جانور کا حرام ہے لیکن اگر کسی دوا سے

فائدہ نہ ہو رہا ہو تو شرعی فتویٰ حاصل کر کے بطور دوا خون کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مجبوری

میں شریعت حرام چیزوں کی اجازت بطور دوا دے دیتی ہے۔)

باز

● عرف نام میں باز کہلانے والے پرندے کو شاہن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک

بہادر اور حساس پرندہ ہے۔ یہ اپنے مالک کا بے حد وفادار ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ شکار

کرنا انسانی ذوق میں داخل ہے۔

●

●

●

●

● بجا رکھنے کے پیشاب سے اگر لڑھے پر لکھا جائے تو دور ہی سے وہ چمکتا ہے۔

بچھو

● بچھو ایک موزی جانور ہے جو سبھی مقامات پر پایا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ واحد جانور ہے جس کے بچے منہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بچھو، بچھلی کو دیکھ کر سوکھ جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ مر جاتا ہے۔

بچھو کے طبی اور روحانی فائدے

● اگر بچھوؤں کو مار کر، سکھا کر ان سے گھر میں دھونی دی جائے تو اگر گھر میں بچھو ہوں گے تو اسی وقت وہاں سے بھاگ جائیں گے یا مر جائیں گے۔

● اگر بچھو کو تیل میں پکا کر رکھ لیا جائے پھر بچھو کے کاٹے پر اس تیل کی مالش کی جائے تو فوراً آرام مل جاتا ہے۔

● بچھو کو جلا کر جو راکھ تیار ہوتی ہے اگر اس کو رتی بھر کسی چیز میں ملا کر بطور دوا استعمال کی جائے مٹانے کی بچھری کو توڑ دیتی ہے۔

● اگر چاند کی ۱۷، ۱۶، ۱۵ یا ۱۴ تاریخ تک بچھو پکڑ کر کسی کوری ہانڈی میں بند کر دیا جائے پھر اس پر تھوڑا سا تیل مسوں کا ڈال دیا جائے پھر اس برتن کو پورے مہینے تک بند کر کے رکھا جائے پھر اس تیل کو اگر وہ شخص اپنے درد پر لگائے جس کے کمر اور رانوں میں درد ہوتا ہو تو انشاء اللہ فوراً آرام اور سکون ملے گا اور دائمی طور پر اس درد سے نجات ملے گی۔

بکری

● بکری کا گوشت عمدہ، لذیذ، مزہ دہنم ہوتا ہے۔

● بکری کی تازہ کھال اگر کسی زخمی انسان کو پہنا دی جائے تو فوری طور پر سکون ہو جاتا ہے اور زخموں کے مٹھ بھر جاتے ہیں، بکری کے بچے کا گوشت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جسم کی بڑھی ہوئی حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، مجموعی اعتبار سے بکری کے بچے کا گوشت پھوڑے اور بھنسی میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے، بکری کے بچے کا گوشت موسم سرما میں نقصان دہ اور موسم گرما میں فائدہ مند رہتا ہے اور دیگر موسموں میں متوسط رہتا ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نفعی جانور غیر نفعی کے بہ نسبت ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ تو مند اور چربی دار جانور سے لذیذ ہوتا ہے مگر دیر میں ہضم ہوتا ہے۔ اگر جانور خیف ہو تو اس کے برخلاف ہوتا ہے، سب سے اچھا گوشت بکری کی ران کا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ زرد ہضم بھی۔ مگر اس کا گوشت معدے کو ڈھیرا کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے پھلوں کا شربت پیا جائے جو قابض ہوں، سب سے زیادہ خوش ذائقہ گوشت جو ان بھینز، کم سن گائے اور بکرے کا ہوتا ہے۔

بلبل

● بلبل کے انڈے اور مغزوق ت باہ کے لئے مفید ہیں۔

● اس کی بیٹ اگر خشک کر کے کسی کریم میں ملا کر لگا لی جائے تو چہرے کی جھائیاں مٹ جائیں۔

● اس کے پروں کی راکھ زخموں کو بھرنے کے لئے مفید ہے۔

● اس کا خون سانس کی نالیوں اور انسانی پیچھے پروں کے لئے مفید ہے۔

بلی کے طبی فوائد

● بلی کا گوشت شرعاً حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص بلی کا گوشت کھالے تو اس پر

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۲۰

کتیرہ روحانی دنیا، دیوبند

جادو اثر نہیں کرے گا۔ اگر بلی کی تلی کسی مستحاضہ عورت کی کمر میں باندھی جائے تو خون فوراً متوقف ہو جائے گا۔

● اگر بلی کی دونوں آنکھوں کو سکھا کر کوئی شخص دھونی لے لے تو اس کی تمام خرابشات پوری ہوں گی اور وہ شخص دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رہے گا، اگر بلی کا دل یا دل کا کچھ حصہ چمڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے تو کوئی دشمن غالب نہیں آسکے گا جو بھی مقابلہ برائے گا اسے سزائی کھانی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص بلی کا پتہ سکھا کر پیش کر آنکھوں میں لگا لے تو اسے رات کو بھی ایسا ہی نظر آئے گا جیسا وہ دن میں دیکھتا ہے اور پتے کو نمک اور زہرے میں ملا کر پرانے دشمنوں پر لگا لیا جائے تو زخم فوراً اچھے ہو جائیں گے۔ اگر دن بوقت جماع ذکر لگا لیا جائے تو بیوی حد سے زیادہ اپنے شوہر کی دیوانی ہو جائے گی۔

● اگر سیاہ بلی اور سیاہ مرغی کے پتے کو لے کر سکھا کر اور پین کر سر کے میں ملا لیا جائے اور پھر آنکھوں کو لگا لیا جائے تو جنات نظر آنے لگیں گے۔ نفرت کا تعویذ اگر بلی کی کھال پر لکھ کر دو پرانی قبروں کے درمیان دیا دیا جائے تو تین دن کے اندر اندر یہ تعویذ اپنا اثر دکھائے گا اور فریقین ایک دوسرے کے زبردست مخالف ہو جائیں گے۔

● اگر کوئی شخص رات کو ڈرتا ہو تو اس کے گلے میں بلی کا سامنے کا دانت کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا جائے تو اس کا ڈرنا متوقف ہوگا۔ اگر کوئی حاملہ اپنا بچہ ضائع کرنا چاہتی ہو تلی کے دماغ سے دھونی لے فوراً اسقاط ہو جائے گا۔

تھیہ (بھڑ)

● اگر تھیہ کے بچے سرسوں کے تیل میں پکا کر انہیں عضو مخصوص پر ملا جائے تو قوت باہ میں زبردست اضافہ ہو۔ قدم زمانے کے اظہاء اس نئے کے ذریعہ لوگوں کو

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۲۱

کتیرہ روحانی دنیا، دیوبند

بہت فائدہ پہنچاتے تھے۔

بھیریا

ایک جنگلی جانور ہے جو تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔

بھیرے کے طبی اور روحانی فائدے

● اگر بھیرے کا سر اس ڈبے میں لٹکا دیا جائے جہاں کبوتر یا مرغیاں بند ہوں تو وہاں بلی اور کتے داخل نہیں ہو سکتے۔

● اگر بھیرے کا داہنا پنجہ نیزے پر لٹکا دیا جائے تو جس شخص کے ہاتھ میں یہ نیزہ ہوگا اس تک دوران لڑائی کوئی مخالف نہیں پہنچ سکتا۔

● اگر بھیرے کا خون روغن اخروٹ میں ملا کر کان میں چٹکا دیا جائے تو کان کے بہرے بن کو نقصان دیتا ہے۔

● بھیرے کی کھال، رامت اور آنکھ کوئی اپنے پاس رکھ لے تو سب کی نگاہوں میں محبوب رہے گا اور دشمنوں پر غالب ہوگا۔

● اگر بھیرے کا پتہ عضو پر مل کر عورت سے غلطی کی جائے تو بے پناہ قوت اساک پیدا ہو جاتی ہے۔

● اگر بھیرے اور گدھ کا پتہ ملا کر طلا تیار کر لیا جائے تو اس کے استعمال سے قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔

● حکیم جالیوں کا فرمان ہے کہ بھیرے کا پتہ اگر روغن بنفشہ میں تحلیل کر کے ناک میں اس کے چند قطرے چڑھائے جائیں تو پرانے سے پرانا اور دوسرے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر کسی محلول کو بچے کی ناک میں چڑھا دیا جائے تو یہ بچہ تمام عمر انشاء اللہ مرگی سے

مکتبہ روحانی دنیا، دیوبند
مختوف رہے گا۔

● اگر بھیڑیے کا پتہ شہد میں ملا کر آنکھ میں لگایا جائے تو اندھے بن اور ضعف بصارت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو سورج وغیرہ کی حرارت سے محفوظ رکھا جائے اور کسی ٹھنڈے مقام فریج وغیرہ میں رکھا جائے۔

● اگر کسی عورت اور اس کی ماں کا نام لے کر بھیڑیے کی دم میں گرہ لگا دی جائے تو جب تک یہ گرہ کھولی نہیں جائے گی اس عورت پر کوئی مرد قاتل نہیں پاسکتا۔

● اگر زخموں پر بھیڑیے کا خون لگا دیا جائے تو زخم پک کر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

بھینس

● بھینس کا گوشت قتل ہوتا ہے، دیر میں ہضم ہوتا ہے اور دل کے مریضوں کے لئے انتہائی نقصان دہ ہے، بھینس کے بچے کا گوشت نسبتاً جلد ہضم ہو جاتا ہے لیکن طبی اعتبار سے امراض قلب میں بھی کچھ اضافہ ہی کرتا ہے، لہذا جو لوگ امراض قلب میں مبتلا ہوں انہیں بھینس اور کٹورے کے گوشت سے احتراز کرنا چاہئے، بھینس کا گوشت کھانے سے سر میں جو کیم پیدا ہو جاتی ہیں، بھینس کی کھال سے اگر دھوئی دی جائے تو گھر سے سب پتو ختم ہو جاتے ہیں، اگر بھینس کی چربی کو اندرانی تمک کے ساتھ ملا کر خارش کے دانوں پر یا پھر سے کے داغ پر مل دیا جائے تو خارش اور داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ عمل بفضل خداوندی برص کے داغوں کو مٹا دینے میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

تیتڑ

● تیتڑ کا گوشت شرعی طور پر حلال ہے اور کبوتر کے گوشت کی طرح یہ لذیذ بھی ہوتا ہے اور گرم بھی۔

مکتبہ روحانی دنیا، دیوبند

● تیتڑ کی چربی اگر کیڑے میں پیکھلا کر کان میں ڈال لے تو کان کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے۔

● تیتڑ کا گوشت عقل و فہم میں اضافہ کرتا ہے اور مادہ منویہ کو بھی بڑھاتا ہے۔

● اگر تیتڑ کا گوشت ان لوگوں کو کھلایا جائے جن میں مردی کمزوری پائی جاتی ہے تو ان کے مرض کو دور کرنے میں تریاق ثابت ہوگا اور چند دن اس کا گوشت استعمال کرنے سے ان کی مردانگی بحال ہو جائے گی۔

ٹٹو

● ٹٹو گھوڑے کی ایک قسم ہے اور دیکھنے میں تقریباً گھوڑے ہی جیسا ہوتا ہے۔

ٹٹو کا شرعی حکم

● بعض ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ تحریمی۔

● ٹٹو کا گوشت امام شافعی کے نزدیک پاک ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے۔

ٹٹو کے طبسی اور روحانی فائدے

● اگر کسی عورت کو ٹٹو کا خون پلا دیا جائے تو وہ حاملہ نہیں ہو سکتی۔

● اگر کتو کے براز کو خشک کر کے پیس کر رکھ لیں اور بوقت ضرورت اس شخص کی ناک پر لگائیں جس کی تکبیر پھوٹ رہی ہو تو تکبیر فوراً بند ہو جائے گی۔

● اس نہ اڑے کو اگر زخموں پر چھڑک لیں تو زخم فوراً خشک ہو جائیں گے۔

● کتو کی چربی کی مائش در و عرق النساء کے لئے بے حد مفید ہے۔

● نمونے چاروں گھروں پر اگر سورہ طارق کی آخری آیات اکیس اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں دبا دیں تو گھر سفلی جادو ٹونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

● حق کی بیگنی اگر چاروں کے برابر کسی عورت کو کھلا دی جائے جس کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہو تو فوراً بچہ باہر آ جائے گا اور عورت کی جان بچ جائے گی۔

● اگر ٹٹو کا براز سکھا کر ناک کے تھنوں پر لگالے تو تکسیرنی الغور بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زخموں پر چھڑکنے سے خون بند ہو جاتا ہے اور زخم خشک ہو جاتے ہیں۔

● حق کی چربی کی مالش درد عرق النساء میں انتہائی مفید ہے۔

● اگر حق کی دم کے بالوں سے دھونی لے لی جائے تو دل کا خوف و ہراس ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر جرأت اور بے باکی پیدا ہو جاتی ہے۔

ٹڈی

علامہ دیرتی فرماتے ہیں کہ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی دس چیزیں پائی جاتی ہیں (۱) گھوڑے کا چہرہ ہوتا۔ (۲) ہاتھی کی آنکھ (۳) بیل کی گردن (۴) بارہ گتھے کا سینٹھ (۵) شیر کا سینہ (۶) بچھو کا پیٹ (۷) گدھ کے پر (۸) اونٹ کی ران (۹) شتر مرغ کی ٹانگ (۱۰) سانپ کی دم۔

ٹڈی کا شرعی حکم

● اس کا گوشت مباح ہے۔ اس پر تمام فقہاء کا اجماع ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹڈی کا گوشت کھایا ہے۔

ٹڈی کے طبّی اور روحانی فائدے

● اگر کوئی شخص پیاس کی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہئے کہ بارہ ٹڈیوں کے سر اور ہاتھ پیر لے کر اس میں درخت ریحان کی خشک جھال ملا کر پے انشاء اللہ عتریب اس مرض سے نجات حاصل ہو جائے گی۔

● اگر کسی شخص کو کھل کر پیشاب نہ آتا ہو تو تین ٹڈیوں کو مار کر ان سے اسے دھونی دی جائے انشاء اللہ ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔

● اگر کسی شخص کے چہرے پر بھائیاں پڑ گئی ہوں تو وہ ٹڈی کے انڈے اپنے چہرے پر ملے بہت جلد اس کے چہرے کی جھائیاں ختم ہو جائیں گی اور چہرہ صاف ہو جائے گا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

جونک

● یہ سرخ اور سیاہ رنگ کا ایک دریائی کیزا ہے جو انسانی بدن کو چٹ جاتا ہے اور انسان کا خون چوس لیتا ہے۔

جونک شرعی حکم

● شرعی طور پر اس کا گوشت حرام ہے۔

جونک کے طبّی فائدے

● اگر جسم کے جوڑوں میں درد ہو تو وہاں جونک لگا دینے سے درد موقوف ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جونک سمجھنوں کی طرح جسم کے فاسد خون کو چوس لیتی ہے۔ بالخصوص بچوں، عورتوں و آرام طلب مردوں کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

● اگر کسی شخص کے بال نہ نکلنے ہوں تو جو تک کو سامنے میں سکھا کر نو شمار کے ساتھ پیش کر سر پر ملا جائے تو بال نکل آئیں گے۔
● جو تک کی دھونی دینے سے کھل اور چمچ بھاگ جاتے ہیں۔
● اگر بڑی جو تک کو کسی ایتھے تیل میں تل لیا جائے پھر اس کو پیش کر سر کے میں ملایا جائے اور سر ہم کی طرح بنالیا جائے پھر اس کو ہم کا پھایا اگر اپنی مقصد کے سوراخ پر لگایا جائے تو یوایر ختم ہو جائے گی۔
● اگر جو تک کی دھونی کسی شے کی دکان میں دے دی جائے تو اس دکان کے تمام شے ختم جائیں گے۔ ایک شے بھی کچھ حالت میں نہیں رہے گا۔

جول

● جول ایک قسم کا کبڑا ہے جو بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ جول کو پکڑ کر مار دیتے ہیں کیوں کہ جس انسان کے سر میں جول پیدا ہو جاتی ہے اسے کسی طرح سکون اور آرام نہیں ہوتا۔
● بزرگوں سے مروی ہے کہ اگر رفع حاجت کے وقت کوئی جول کو ہلاک کر دے تو شیطان اس کے بالوں میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو چالیس دن تک ذکر اللہ سے عاقل کر دیتا ہے۔

حاملہ عورت کا لڑکا اور لڑکی معلوم کرنے کا طریقہ

● اگر کوئی حاملہ عورت یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی تو وہ اپنے سر سے ایک جول پکڑے اور پھر اپنے پستانوں سے دودھ کا ایک قطرہ نکال کر اپنی چمکی پر ڈال لے اور اس میں جول چھوڑ دے۔ اگر جول دودھ کے قطرے سے باہر نکل گئی تو حمل لڑکی کا ہے اور اگر دودھ کے قطرے ہی میں رہے تو حمل لڑکے کا ہے۔

● اگر زندہ جوں کھانے میں گر جائے تو اس کو کھانے سے نسیان (بھولنے کی) بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔
● آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ۶ چیزوں سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ (۱) چوہے کا جھوٹا کھانا (۲) زندہ جوں کو بغیر مارے پھینک دینا (۳) ٹھہرے ہوئے پانی میں بیٹشاب کرنا (۴) قطار کو توڑ دینا (۵) گوند چباننا (۶) کھٹا سب کھانا۔
● بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نسیان کی بیماری ان چیزوں سے بھی پیدا ہوتی ہے (۱) قبروں کے کتے پڑھنا (۲) دو دروہوں کے درمیان چلنا (۳) مصلوب کو دیکھنا (۴) ہرا دھنیا کچھا کھانا (۵) گرم روٹی کھانا وغیرہ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کالے رنگ کا جوتا پہننے سے بھی نسیان پیدا ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

چڑیا

● چڑیوں کا گوشت گرم خشک اور ریشی کے گوشت سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کا گوشت مٹی اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے، رطوبت والے اشخاص کے لئے اس کا گوشت مضر ہے، لیکن ردغن باذام سے اس کی مضریت ختم ہو جاتی ہے۔
● چڑیا کا گوشت بوڑھے اور سرد مزاج لوگ اگر موسم سرما میں کھائیں تو سردی کی مضریت سے بڑی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔
● چڑیا کی ہڈی نہیں کھانی چاہئے۔ اگر اس کی ہڈی پیٹ میں چلی جائے تو پتے اور انتوں میں چربی پیدا کر دیتی ہے۔
● اگر چڑیا کے گوشت کی نجھی کھائی جائے تو قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔
● چڑیوں کے گوشت کا شور یہ طبیعت میں صفائی اور ذہن میں یکسوئی پیدا کرتا ہے۔

● چیزوں کی بیٹ اگر لعاب دہن میں ملا کر پھنسیوں پر لگائی جائے تو پھنسیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔

● اگر چڑیا کا مغز شیرے کے ہمراہ پگھلا کر شراب کے عادی کو پلا دیا جائے تو اس کو شراب سے نفرت ہو جائے گی۔

● چیزے کا خون اگر مسوری والی کے تین میں مل کر گولیاں بنائی جائیں تو یہ گولیاں قوت باہ میں حد سے زیادہ مفید ہیں اور طبیعت میں بیجان بھی پیدا کرتی ہیں، قدیم زمانہ میں اطلتاء چیزے کے مغز کو بھی ان مریضوں کو استعمال کراتے تھے جن میں رجولیت اور مردانگی کا نقصان ہو۔

● مذکورہ گولی کو اگر زہن کے تیل میں ملا کر عضو مخصوص پر ماس کر لی جائے تو اس میں مضبوطی اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔

چمگادڑ

● چمگادڑ کا کھانا حرام ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس کے گوشت کو حلال بھی بتایا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا گوشت شرعاً حرام ہے۔

چمگادڑ کے طبی اور روحانی فائدے

● اگر چمگادڑ کا سر کسی کے کندھے کے نیچے رکھ دیا جائے تو اس شخص کی نیند اڑ جائے گی

● اگر چمگادڑ کا سر چینیل کے تیل میں ڈال کر کسی تانے یا لوہے کے برتن میں اس طرح پکالیا جائے کہ تیل بار بار اٹھتے پلٹتے رہیں یہاں تک کہ چمگادڑ کا سر جل کر کوئلہ ہو جائے اور تیل میں تحلیل ہو جائے یا اگر تحلیل نہ ہو لیکن تیل میں اس کے اثرات پوری طرح معلول ہو جائیں پھر اس تیل کو کسی شیشی میں رکھ لیا جائے۔ یہ تیل فاج ہانتوے اور

● رعشے کی بیماری کی میں انشاء اللہ بے حد مفید ثابت ہوگا۔

● اگر چمگادڑ کو ذبح کر کے پھر اس کو جلا کر گھر میں دھونی دی جائے تو گھر میں سانپ اور بچھو داخل نہیں ہوں گے اور جو موجود ہوں گے فوراً بھاگ جائیں گے۔

● اگر چند چمگادڑوں کو ذبح کر کے شوربہ پکایا جائے پھر اس شوربے کو ایک طباق میں نکال کر اس پر فاج کے مریض کو بیٹھا دیا جائے تو بفضل رب اس کو فاج سے نجات حاصل ہو جائے گی۔

● اگر زیر ناف بلوغ سے پہلے چمگادڑ کا خون مل دیا جائے تو اس جگہ کبھی بال نہیں آئیں گے۔

چوہا

● عام گھروں میں پایا جانے والا ایک مشہور جانور ہے۔

چوہے کا شرعی حکم

● اس کا گوشت حرام ہے اور اس کا جھونا مکروہ تحریمی ہے

چوہے کے طبی اور روحانی فائدے

● اگر چوہے کے سر کو کاٹ کر اور زرد رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اس شخص کے سر ہانے رکھ دیا جائے جو شدید درد و سر میں مبتلا ہو تو فوراً اس کا درد موقوف ہوگا، یہی عمل مرگی کے لئے مفید ہے۔

● اگر کسی کو چوتھیا بخارا آیا ہو اور کسی علاج سے رفع نہ ہوتا ہو تو چوہے کی آنکھ اس کے گلے میں کپڑے میں لپیٹ کر باندھ دیں۔ انشاء اللہ چوتھیا بخارا سے نجات ملے گی۔

چیتا

● چیتا ایک درندہ ہے جو شیر کی طرح خوبصورت اور بہادر ہوتا ہے۔

چیتے کا شرعی حکم

● چیتا بالافتق حرام ہے اور اس کی کھال اگر چہ دباغت کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہے لیکن اس کی جائے نماز وغیرہ مانا جاتا نہیں ہے۔

چیتے کے طبیبی اور روحانی فائدے

● اگر چوہے پکڑنے ہوں تو کسی جگہ چیتے کا سر ڈن کر دیا جائے کچھ دیر کے بعد اس جگہ چوہے آکر جنج ہو جائیں گے اور ان پر ایک مدہوشی طاری ہوگی۔

● چیتے کے پتے کو سکھا کر اگر گرمہ میں تحلیل کر کے استعمال کیا جائے تو نگاہ تیز ہو جاتی ہے اور آنکھ سے پانی بہنے کا مرض بھی رفع ہو جاتا ہے۔

● اگر چیتے کی کھال سے دھونی دی جائے تو وہاں سے بچھو بھاگ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔

● اگر چیتے کی جربی پرانے زخموں پر لگا دی جائے تو زخم فوراً مندمل ہو جاتے ہیں۔

● اگر کوئی شخص چیتے کا خون پی لے تو زہریلے جانور کے کاٹنے سے اس پر کوئی اثر نہ ہو (یاد رکھیں کسی بھی جانور کا خون حرام ہے اور ہلپتاہ کی رائے سے اگر ہلپور دوا استعمال کیا جائے تو کراہیت کے ساتھ اجازت ہے۔)

● اگر چیتے کے عضو تامل کا شوربہ لیا جائے اور پھر اس شوربے کو وہ شخص پی لے جس کو سلسلہ البول کی بیماری ہو تو بیماری فوراً رفع ہوگی۔ مٹانے کی تمام بیماریاں اس

● عمل سے ختم ہو جائیں گی۔

● اگر چیتے کی کھال کو تعویذ بنا کر اپنے ہاتھ پر باندھ لیا جائے تو بوا سیر کا مرض فوراً ٹھیک ہو جائے۔

● اگر چیتے کے دل کا ٹکڑا ایک تولے کے برابر سکھا کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لیا جائے تو لوگوں پر رعب طاری رہے اور دشمن بھی مرعوب رہیں۔

● اگر چیتے کے ہاتھ، پنجے کسی جگہ فنن کر دے جائیں تو ہاں چوہے نہیں رہ سکتے۔

چیل

● چیل مشہور پرندہ ہے اور ہر جگہ پایا جاتا ہے۔

چیل کا شرعی حکم

● مستفاد طور پر اس کا گوشت حرام ہے۔

چیل کے طبیبی اور روحانی فائدے

● چیل کے پتے کو سائے میں خشک کر کے رکھ لیں پھر یوقت ضرورت اس کو پانی میں بھگو کر ایسی جگہ لگا میں جہاں زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو تو فوراً شفا ہوگی۔

● اگر اس کے پتے کو باریک چیس کر سانپوں کے تل میں چھڑک دیں تو تمام سانپ مر جائیں گے۔

● چیل کے خون کا ایک قطرہ اور عرق گلاب کے تین قطروں میں ملا کر اگر گردے کے مریض کو استعمال کریں تو مرض رفع ہو جاتا ہے۔

● جس گھر میں چیل کا پتہ لٹکا ہوا ہو، اس گھر میں سانپ، بچھو داخل نہیں ہوتے۔

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۳۲ مکتبہ روحانی دنیا دیوبند

● جیل کے تمام پروں اور اس کے بچوں اور سر کو اگر کسی گھر میں درمیان گھروں
 کر دیا جائے تو گھر جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔
 ● جیل کے پتے کو سائے میں خشک کر کے پیشے کے برتن میں بھگو کر کسی بھی
 زہریلے جانور کے ڈسنے کی جگہ ایک قطرہ پکانے سے اس کے زہریلے اثرات ختم
 ہو جاتے ہیں۔
 ● اگر کسی پتے کا سرمہ بنا کر آنکھ میں لگائیں۔ اگر جانور نے دائیں آنکھ میں کانٹا
 ہو تو دائیں آنکھ میں اور اگر بائیں آنکھ میں کانٹا ہو تو بائیں آنکھ میں لگانے سے شفا
 نصیب ہوتی ہے۔
 ● جیل کے پتے کو باریک پیس کر ساپوں کے بل میں پھرنے سے تمام سانپ
 مرجائیں گے۔

خچر

● خچر گدھے اور گھوڑے سے مل کر پیدا ہوتا ہے اور یہ ہر ملک میں پایا جاتا ہے۔

خچر کا شرعی حکم


● خچر کا گوشت حرام ہے۔
 ● خچر کے طبی اور روحانی فائدے
 ● اگر کوئی عورت خچر کے دل کو کھائے تو کبھی حاملہ نہیں ہو سکتی، اگرچہ شراباً حرام ہے
 ● اگر کوئی عورت خچر کے کان کے سیل کو اپنی شرم گاہ کے اندرونی حصہ میں
 لگائے تو کبھی حاملہ نہیں ہو سکتی۔

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۳۳ مکتبہ روحانی دنیا دیوبند

● اگر کوئی عورت خچر کے کان کے سیل کو خچر ہی کی کھال میں رکھ کر اپنے ہاتھ پر
 باندھ لے تو کبھی حاملہ نہ ہو۔
 ● اگر کوئی گنچا شخص خچر کے کھروں کی راکھ بنا کر تیل میں ملا کر استعمال کرنے تو
 سر کا گنچا پن دور ہو۔
 ● اگر کالے رنگ کے خچر کا خون گھر میں چھڑک دیں تو گھر سے چوہے بھاگ
 جائیں۔
 ● اگر خچر کے کھروں سے گھر میں دھونی دی جائے تو گھر سے چوہے اور کیڑے
 مکڑے سب فرار ہو جائیں
 ● اگر کوئی عاشق خچر کے لوٹنے کی جگہ چند بار لوٹ لے تو اس کے دل سے عشق
 رفع ہو جاتا ہے۔ خچر کی چربی کی ماش عرق النساء کے درد کے لئے مفید ہے۔
 ● اگر کوئی شخص زکام میں مبتلا ہو تو خچر کی غلاظت کو سو گھ کر تھوک دے۔ زکام
 سے نجات مل جائے گی۔
 ● خچر کی چاروں ٹانگیں جس گھر میں داخل ہوں گی وہ گھر سفلی کر توت سے محفوظ
 رہے گا۔

خرگوش

● خرگوش ایک خوبصورت چوپایا ہے، خرگوش جنگلی بھی ہوتا ہے اور پالتو بھی۔
 اکثر لوگ خرگوش پالتے ہیں، خرگوش کا گوشت اکثر علماء کے نزدیک حلال ہے، بعض فقہاء
 اس کے گوشت کو مکرمہ بتاتے ہیں لیکن علمائے حق کی اکثریت خرگوش کے گوشت کو حلال
 اور جائز بتاتی ہے۔ بقرانے کہا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے۔ پیٹ کو
 صاف کرتا ہے اور پیشاب اچھی طرح کھل کر لاتا ہے۔




خرگوش کے طبی اور روحانی فائدے

- اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے سٹنے گلے میں ڈالے رہے تو اس پر نگاہ بداد اور جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔
- اگر خرگوش کی مٹنگی یا گوبر کو عورت کسی کپڑے میں باندھ کر گلے میں لٹکا لے تو وہ حاملہ نہیں ہو سکتی۔
- اگر خرگوش کا دماغ بھون کر سیاہ مرچ کے ساتھ کھلایا جائے تو رعشہ کی بیماری کے لئے مفید ہے۔
- خرگوش کا خون اگر چہرے کی جھائیں یا برص کے داغوں پر لگا یا جائے تو وہ ختم ہو جائیں۔
- جن لوگوں کو بار بار بیہوش آتا ہو ان کے لئے خرگوش کا گوشت مفید ہے۔
- اگر خرگوش کی چربی کسی عورت کے نکلیے کے نیچے رکھ دی جائے تو وہ عورت خود بخود رات کو اپنا راز فاش کر دے گی۔
- اگر کوئی خرگوش کی ڈاڑھ کو اپنے گلے میں لٹکا لے تو وہ ڈاڑھ کے درد سے محفوظ ہو جائے گا۔

دلفین

- ایک عجیب طرح کی مچھلی ہے جو ذوقی ہوئی چیزوں کو بچا کر کنارے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر وہ کسی انسان کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھ لے تو اس کو اٹھا کر کنارے تک پہنچا دیتی ہے۔



دلفین کا شرعی حکم

- دلفین کا گوشت مچھلی کے گوشت کی طرح پاک اور طیب ہے۔

دلفین کے طبی اور روحانی فائدے

- اس کی چربی کو ایلوے میں پگھلا کر اگر کان میں نہکا دیا جائے تو کان کا بہرہ بین دور ہوتا ہے۔
- اگر اس کے دانت ڈرنے والے بچوں کے گلے میں ڈال دیں تو ان کا ڈرنا موقوف ہو جائے گا۔
- اگر اس کی چربی پارے میں ملا کر کوئی عورت ایک بار اپنے چہرے پر مل لے تو اس کا شوہر اس سے محبت کرنے لگے۔
- اگر اس کے چہرے کو سات روز تک عرقِ گلاب میں ڈالیں پھر اس عرقِ گلاب سے منہ دھو لیں تو عزیزِ خلائق ہو جائیں۔

دُنْبہ


- دُنْبہ بھیڑ کی طرح ہوتا ہے۔ عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے۔

دُنْبہ کا شرعی حکم

- دُنْبہ کا گوشت بکرے کے گوشت کی طرح بلا تعلق حلال ہے۔

دُنْبہ کے طبی اور روحانی فائدے

- اس کا گوشت سودا کو روکتا ہے اور سستی میں اضافہ کرتا ہے۔



جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۳۶ مکتبہ روحانی دنیا دیوبند

- اس کا گوشت معدے کے لئے مفید ہے اور معدے کی حفاظت کرتا ہے۔
- نحصی ڈبے کا گوشت قوت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔
- اس کا خون بوقت ذبح اگر فوراً گرم گرم برص کے نشانات پر مل لیا جائے تو نشانات مٹ جاتے ہیں۔
- اگر ڈبے کی تازہ کلیجی جلا لی جائے اور پھر اس کو سکھا کر دانتوں پر ملا جائے تو دانت سفید اور چمکیلے ہو جاتے ہیں۔
- اگر مینڈھے کا سیبک کسی درخت کی جڑ میں دبا دیا جائے تو اس پر بے شمار پھل آئیں گے۔
- اگر بیڑے بال عورت اپنی اندام نہانی میں رکھے تو حمل ضائع ہو جائے گا۔

ریچھ

ایک مشہور درندہ ہے، یہ حد سے زیادہ تہائی پسند ہوتا ہے، جب موسم سرما آتا ہے تو یہ اپنی قیام گاہ میں داخل ہو جاتا ہے اور جب تک ہوا میں اعتدال پیدا نہیں ہو جاتا تو یہ اپنی قیام گاہ سے باہر نہیں نکلتا۔ چنانچہ اس دوران جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے ہاتھ پاؤں کو چاٹ لیتا ہے اور اس سے اس کی بھوک رفع ہو جاتی ہے۔

ریچھ کا شرعی حکم

- اس کا کھانا قطعی طور پر حرام ہے اور کسی بھی امام کے نزدیک جائز نہیں ہے۔
- ریچھ کے طبی اور روحانی فائدے
- ریچھ کی چربی کی ماش برص کو ختم کر دیتی ہے۔

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۳۷ مکتبہ روحانی دنیا دیوبند

- اگر ریچھ کی داہنی آنکھ کبڑے میں باندھ کر کسی انسان کے بازو پر باندھ دی جائے تو اس شخص کو دردوں کا خوف نہیں ہوگا۔
- اگر ریچھ کے پتے کو داہنی ران پر باندھ کر بیوی سے صحبت کر لے تو جب تک اسے کھول نہ دے گا انزال نہ ہوگا۔
- اگر ریچھ کی کھال کا ٹکڑا بد اخلاق لڑکے کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو اس کی بد اخلاقی ختم ہو جائے گی۔
- اگر ریچھ کی داہنی آنکھ اس بچے کے گلے میں لٹکا دی جائے جو رات کو ڈرتا ہو تو اس کا ڈر ناموقوف ہوگا۔
- ریچھ کی چربی اگر کسی کسور میں بھری جائے تو کسور بالکل ختم ہو جائے گا۔

ریشم کے کیڑے

- اگر ریشم کے کیڑے زیتون میں ملا کر کسی ایسے شخص کے بدن میں مل دیا جائے جسے زہر لے جانور نے ڈس لیا ہو تو انشاء اللہ اس کو فائدہ ہوگا۔
- اگر ریشم کے کیڑے مرغی کو کھلائے جائیں تو وہ موٹی ہو جائے گی۔
- اگر ریشم کے کیڑوں کو سکھا کر بیس کر زیتون کے تیل میں ملا کر سر پر استعمال کریں تو سر کا گھنچا بین انشاء اللہ دور ہوگا۔

سارس

- لمبی گردن کا ایک آبی پرندہ ہے۔ اس کی غذا سانپ اور دیگر حشرات الارض ہیں۔ سارس کی ہوشیاری مشہور ہے۔ اس پرندے کی عقل مندی یہ ہے کہ یہ اپنے دو گھونٹے بناتا ہے سال کا کچھ حصہ ایک گھونٹے میں بسر کرتا ہے اور دوسرا حصہ دوسرے گھونٹے میں بسر کرتا ہے۔

جانوروں کے طبعی اور روحانی فائدے ۳۸
مکتبہ روحانی دنیا دہلی ہند
گھونسلے میں گزارتا ہے۔

سارس کے طبعی اور روحانی فائدے

- اگر سارس کا چوزہ ذبح کر کے مجذوم کے بدن پر اس کا خون لگائیں تو بہت فائدہ ہو۔
- سارس کی ہڈی اپنے پاس رکھنے سے دل کی اداسی دور ہو جاتی ہے
- اگر سارس کی داہنی آنکھ اپنے پاس رکھے تو سوتا رہے۔
- سارس کی آنکھ اپنے پاس رکھنے والا پانی میں نہیں ڈوبے گا خواہ وہ تیرتا بھی نہ جاتا ہو۔

شکرا

- باز کی طرح ایک شکاری جانور ہے چڑیوں کو پکڑتا ہے۔ یہ پرندہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔

شکرے کا شرعی حکم

- شکرے کا گوشت حرام ہے۔
- شکرے کے طبعی اور روحانی فائدے
- شکرے کا دماغ اگر کچا ہی ذکر پل لیا جائے تو قوت مردی میں زبردست اضافہ ہوتا ہے اور عضوی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔
- اگر کسی کے چہرے پر کالی جھائیاں پڑ گئی ہوں تو اس کے دماغ کو کچا ہی کوٹ کر چہرے پر مالش کرنے سے جھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

جانوروں کے طبعی اور روحانی فائدے ۳۹
مکتبہ روحانی دنیا دہلی ہند
• اگر گردن میں درد ہو تو اس کے لئے بھی یہ عمل مفید ہے۔ کرنا یہ چاہئے کہ اس کو کوٹ کر کسی تیل میں ملا کر گردن پر اس کی مالش کریں۔

شیر

- شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، شیر بلاشبہ جانوروں میں سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، جو لوگ بہادر ہوتے ہیں دنیا انہیں شیر کے نام سے تشبیہ دیتی ہے۔ مثلاً شیر کشمیر، شیر میوات جیسے خطابات دینے کا آج تک رواج چلا آ رہا ہے۔
- آنحضور ﷺ کے چچا حضرت امیر حمزہؓ چونکہ بہادری اور شجاعت میں بے مثال تھے اس لئے انہیں ”شیر خدا“ کہا جاتا تھا، بہر کیف بہادری شیر کا خصوصی وصف ہے۔

شیر کی خصوصیات

- شیر جتنا بہادر ہوتا ہے اتنا ہی صابر بھی ہے۔ کئی کئی دن یہ بالکل بھوکا رہتا ہے اور صبر و ضبط کرتا ہے۔
- شیر دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا۔ اسی طرح جس گوشت پر کوئی دوسرا جانور نھلگا دے یہ اس گوشت کو بھی نہیں منہ نہیں لگاتا۔
- شیر کتے کا جھونپالی نہیں بیٹا اور جس پانی میں کتا منھ ڈال دیتا ہے شیر سونگھ کر سمجھ لیتا ہے کہ اس پانی میں کتے نے منھ ڈالا ہے۔

شیر کا شرعی حکم

- شیر کا گوشت حرام ہے اور اس کا شکار کیا ہوا جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، شیر کی خرید و فروخت بھی شرعاً ممنوع ہے، اس کی کھال کی اگر جائے نماز بنا لی جائے تو اس پر نماز مکروہ ہوتی ہے۔

شیر کے طبی اور روحانی فائدے

- اگر کوئی شخص اپنے بدن پر شیر کی چربی کی ماش کر لے تو اس کے نزدیک کوئی درد نہ ہنیں آئے گا۔
- اگر شیر کا پتہ بطور دوا مرضی کے انڈے کے ساتھ ملا کر کھالیا جائے تو نامردی دور ہو جاتی ہے۔
- اگر شیر کی کھال کسی جنگل میں جلائی جائے تو اس کی مہک سے تمام جنگلی درندے بھاگ جاتے ہیں۔
- اگر شیر کی کھال کسی الماری میں رکھ دی جائے تو وہاں دیمک پیدا نہیں ہوتی۔
- شیر کی کھال پر بیٹھے سے ہاتھ پاؤں کے درد اور بوایر سے شفا ہو جاتی ہے۔
- کاہلی، سستی اور چہرے پر پڑی ہوئی جھانپوں کو دور کرنے کے لئے شیر کی چربی کی ماش بہت مفید ہے۔
- اگر اس کا گور خشک کر کے کسی شرابی کو بغیر اسے بتائے کھلا دیں تو اسے شراب سے سخت نفرت ہو جائے گی۔
- اگر کوئی شخص شیر کی کھال پر اپنا اور اپنی ماں کا نام لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لے تو کوئی شخص اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔

طوطا

- طوطے کا شرعی حکم مختلف فیہ ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کا گوشت مکروہ ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک حلال ہے۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک اس کا گوشت جائز نہیں۔

طوطے کے طبی اور روحانی فائدے

- طوطے کی زبان کھانے سے گتھکو میں مٹھاس اور شائستگی پیدا ہو جاتی ہے، فصاحت، ہر دانی بقوت گویائی اور سچ بولنے کی جسارت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔
- طوطے کے خون کو سکھا کر اگر چار چور اہوں کی مٹی میں ملا کر پھرا سے خشک کر کے اگر دوستوں کے درمیان بکھیر دیا جائے تو دوستی دشمن میں بدل جاتی ہے۔
- بھیسپروں کے حملہ امراض میں طوطے کا گوشت مفید پایا گیا ہے۔
- طوطے کا گوشت لکنت سے مر لیضوں کے لئے بھی بے حد مفید ثابت ہوا ہے۔

عقاب

- عقاب کو تمام پرندوں کا سردار مانا گیا ہے۔ عقاب بہت تیز بینائی رکھتا ہے۔

عقاب کے طبی اور روحانی فائدے

- اگر عقاب کے پروں سے گھر میں دھوئی دے دی جائے تو گھر کے سانپ بچھوڑ جاتے ہیں۔
- عقاب کے بال دہرا کر کسی گھر میں دفن کر دئے جائیں تو وہ گھر سحر اور جنات کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
- اگر عقاب کا پتہ خشک کر کے بطور سرمہ اسے آنکھ میں لگا لیں تو ”زولہ ماء“ کی بیماری کو رفع کرتا ہے۔
- عقاب کے پنچے اگر کسی جگہ دبا دئے جائیں تو وہ جگہ حشرات الارض سے محفوظ ہو جاتی ہے بالخصوص چوہے وہاں باقی نہیں رہتے۔

فاختہ

• فاختہ ایک خوبصورت پرندہ ہے اس کے گلے میں ایک طوق سا ہوتا ہے جو اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔

فاختہ کا شرعی حکم

• فاختہ کا گوشت شرمناک ہے۔ اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔

فاختہ کے طبی اور روحانی فائدے

• مرگی والے بچے کے گلے میں (بشرطیکہ بچے کی عمر ۱۲ سال سے کم ہو) اگر فاختہ کی بیٹ ڈال دی جائے تو فوراً وہ شفا پاب ہو جائے گا۔

• آنکھوں کے اندر اگر زخم ہو جائے تو فاختہ کا خون سرمہ میں مل کر کے اگر لگایا جائے زخم مندمل ہو جاتا ہے۔

• فاختہ کی آواز سے سانپ بھاگ جاتا ہے جس جنگل میں فاختہ ہوگی وہاں سانپ نہیں ہوں گے۔ اگر کسی گھر میں سانپوں نے اپنے بل بنا رکھے ہوں تو وہاں فاختہ پال لی جائے۔ فاختہ کی آواز سن کر سانپ وہاں سے فرہ چکر ہو جائیں گے۔

• برس کے نشانات پر اگر جنگلی کبوتر اور فاختہ کا خون ملا کر چند دن تک ماش کی جانے تو برس کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ خون اگر برتن میں خشک ہو جائے تو تھوڑا سا زیتون کا تیل اس پر لگا کر پھر برس کے نشانات پر لگا لیتا چاہئے۔

• اگر کسی بچے کو مرگی ہو تو اس کے گلے میں فاختہ کی بیٹ کپڑے میں باندھ کر بطریق تعویذ باندھ دیں۔ انشاء اللہ مرگی کا اثر فوراً ختم ہوگا۔

• فاختہ کے پروں سے اگر کسی ایسے شخص کو دھوئی دی جائے جس پر سستی سوار ہو تو انشاء اللہ اسے سستی اور کاہلی سے نجات ملے گی۔

قمری

• قمری ایک خوبصورت سا پرندہ ہے جو کبوتر اور فاختہ کے جوز سے بنتا ہے۔

قمری کے طبی اور روحانی فائدے

• اگر کسی شخص کو زہر پیلے سانپ نے کاٹ لیا ہو تو قمری کی ہڈیوں کو جلا کر روغن زیتون میں جوش دیں اور پھر اس جگہ لگا لیں جہاں سانپ نے کاٹا ہو، اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک زہر کا اثر ختم ہوگا، دوسرے اس کے زہر سے اگر بال جھڑ گئے ہوں گے تو وہ بھی بحال ہو جائیں گے۔

• بعض اطباء نے کہا ہے کہ جو لوگ قدرتی سمیٹے ہوتے ہیں اگر وہ قمری کی ہڈیوں کو جلا کر راکھ بنا کر پھر زیتون کے تیل میں پکا کر اس کا لیپ لگا کر ایک ماہ تک رات کو سوتے وقت اپنے سر پر ماش کریں تو بال پیدا ہو جائیں گے اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے بال جھڑ گئے ہیں تو ایک ہی ہفتے یہ عمل کرنے سے بال انشاء اللہ پھر پیدا ہو جائیں گے اور سر کا گھنچا پین دور ہوگا۔

• اگر عورت سے کوئی راز معلوم کرنا ہو تو قمری کا سر سکھا کر کسی نئے اونٹنی کپڑے میں لپیٹ کر اس عورت کے سوتے وقت اگر ران پر باندھ دیں تو وہ پوشیدہ باتوں کو سوتے سوتے ظاہر کر دے گی۔

• قمری کے پیٹ کو اگر درمیان سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر لیں پھر ان دونوں حصوں کو پکا کر اس کا پکا ہوا پانی کسی شیشی میں جمع کر لیں پھر اس پانی سے جس کے سر میں ماش کر دیں گے وہ ماش کرنے والے سے محبت کرنے لگے گا۔

قمری کے پردوں اور پنچوں سے اگر کسی گھر میں تین مرتبہ تین دن تک لگا تار دھونی دے دی جائے تو وہ گھر لقمے اور قانع کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

کبوتر

کبوتر بالاتفاق حلال ہے کیوں کہ یہ ان پرندوں میں شامل ہے جو طیب ہیں۔ فقہاء، علماء اور عوام خاص کبوتر کی معصومیت کے قائل ہیں۔

کبوتر کے طبی اور روحانی فائدے

اگر کسی شخص کے اعضاء شل ہو جائیں یا کسی کو لقمے یا قانع کا اثر ہو جائے تو ایسے شخص کو کبوتروں کے دڑبے کے قریب رکھا جائے اور کبوتر کا گوشت کھلایا جائے۔ کبوتر کا گوشت لقمے اور قانع کی بیماری کو تم کرنے میں تریاق کی حیثیت رکھتا ہے اور کبوتروں کے پردوں کی ہوا بھی ان امراض میں مفید ہے۔

کبوتر کے خون کو اگر زیتون کے تیل میں ملا کر چلے ہوئے زخموں پر لگایا جائے تو آرام جلد آ جاتا ہے اور چلے ہوئے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں۔

کبوتر کی بیٹ کا لپ اگر کبوتر ہی کے زخموں پر کر دیا جائے تو زخم بھر جاتا ہے۔

کبوتر کی بیٹ گرم ہوتی ہے۔ بالخصوص جنگلی کبوتر کی بیٹ حد سے زیادہ گرم ہوتی ہے اور اگر اس کو پانی میں گھول کر پھر کسی فرش پر اس پانی کو پھینکا کر اس پر عسر بول کا مرہض بیٹھ جائے تو بفضلِ خداوندی مرض سے نجات مل جائے۔

اگر کبوتر کی بیٹ سر کے میں ملا کر درد و استقامت والے کے بیٹ پر لپ کر دیا جائے تو انشاء اللہ اس وقت اس کا مرض رفع ہوگا۔

کبوتر کی بیٹ کی دھونی اگر درد زہ والی عورت کو دے دی جائے تو بچہ آسانی

پیدا ہو جائے۔

کبوتر کے خون سے سب کے تعویذ لکھے جاتے ہیں اور ایسے تعویذ بہت موثر ہوتے ہیں۔

کوئے کا شرعی حکم

کوئے اور طوطے کے سلسلہ میں اللہ کی ایک سی رائے ہے، بعض اس کو مکروہ بتاتے ہیں اور بعض اس کی حلت کے قائل ہیں۔

کوئے کے طبی اور روحانی فائدے

اگر کوئے کی زبان سکھا کر ایسے شخص کو کھلا دی جائے جسے پیاس کا مرض لاحق ہو تو بفضلِ خداوندی اسے شفاء حاصل ہوگی۔

کوئے کا پتہ اگر تیل میں ملا کر بالوں پر لگایا جائے تو سفید بال سیاہ ہو جائیں گے۔

کوئے پر سفلی عمل پڑھ کر جادو کرنے کی ریت قدیم زمانہ سے چلی آ رہی ہے۔

کوئے کے پر اس کے بچے، اس کا سر وغیرہ بھی سفلی اعمال میں کام آتا ہے لیکن سفلی اعمال کا کافر شرعاً جائز نہیں ہے۔

کیچوا

یہ ایک طرح کا کیڑا ہے جو وہاں پیدا ہو جاتا ہے جہاں رطوبت ہو۔ اکثر دریاؤں کے کناروں پر کیچوے دیکھے گئے ہیں۔ اس کا کھانا مطلقاً حرام ہے۔

کچھوے کے طبعی فائدے

- اگر کچھوے کی چربی جسم پر ل کر کوئی شخص آگ میں کود جائے تو آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔
- اگر کچھوے کو خشک کر کے ایک درہم کے بقدر کسی چیز میں ملا کر درزہ میں مبتلا عورت کو پلایا جائے تو فوراً بچہ پیدا ہو جائے گا۔
- اگر کچھوے خشک کر کے انہیں پیس کر آٹے میں شامل کر کے روٹی پکالی جائے پھر اس روٹی کو دو تین بار کھالیا جائے تو مٹھانے کی پتھری ریزے ریزے ہو کر یہ شباب کے راستے سے باہر آ جاتی ہے۔
- اگر کچھوے خشک کر کے انہیں جلا لیا جائے پھر ان کی راکھ کو کسی بھی تیل میں ملا کر گھنٹے کے سر پر ملا جائے تو سر پر بال پیدا ہو جائیں اور گچہ پین ختم ہو جائے۔
- اگر کچھوؤں کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر بوتل کو کسی زمین میں دفن کر دیا جائے اور سات یوم کے بعد اس بوتل کو نکال کر تیل کو چھان لیا جائے اور کچھوے تیل سے نکال کر پھینک دئے جائیں تو پھر اس تیل میں برابر کا گل لالہ کا عرق شامل کر کے سر پر لگا یا جائے تو سفید بال کالے ہو جائیں۔
- نوٹ : کچھوے کا کھانا مطلقاً حرام ہے لیکن اگر اس کو یا کسی بھی حرام شے کو لپٹا ہی کر رائے سے استعمال کیا جائے تو شرعاً اس کی اجازت ہے لیکن حرام چیزوں کا بطور دوا بھی استعمال اس وقت جائز ہے جب تمام جائز دواؤں کو آزما لیا گیا ہو اور ان سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہو اور والدہ اعلم بالصواب

گدھ

- گدھ پر بندوں کا بادشاہ ہے لیکن چوں کہ یہ مردار کھاتا ہے اس لئے شرعاً اس کا گوشت حرام ہے۔
- گدھ کے طبعی اور روحانی فائدے
- اگر گدھ کا دل بھیڑیے کی کھال میں پلپٹ کر کوئی شخص اپنے گلے میں لٹکا لے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیں اور لوگوں پر اس کا رعب قائم رہے اور کوئی درندہ بھی اسے گزند نہ پہنچا سکے۔
- اگر دروزہ کے وقت عورت مشکل کا شکار ہو تو گدھ کا پر عورت کی بائیں ران پر باندھ دیا جائے انشاء اللہ بچہ سہولت کے ساتھ فوراً پیدا ہو جائے گا۔
- اگر گدھ کی ہڈی بادشاہ کے وہ لوگ گلے میں ڈال لیں جو بادشاہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوں تو اچانک بادشاہ کے رویہ میں تبدیلی آ جائے اور بادشاہ ان سب کو اپنا مقرب بنا لے اور آئندہ کبھی ان پر ظلم نہ کرے۔
- اگر گدھ کے بائیں ران کی ہڈی دستوں کا پرانا مریض پہن لے تو اسے اس مرض سے نجات مل جائے۔
- گدھ کے پروں کی دھونی اگر کسی گھر میں دی جائے تو مکھی، پوس اور چمھر جیسے جانوروں سے بھاگ جائیں۔
- گدھ کا کلیجہ قوت باہ کے لئے بے حد مفید ہے۔
- اگر گدھ کے انڈے پھوڑ کر انہیں خوب چھینٹ لیں پھر انہیں عضو متاعل پر ملیں تو حیرت انگیز قوت حاصل ہو۔

● اگر کدھ کی اوپر کی چوچ کسی کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ بنا کر انسان کی گردن میں لٹکادی جائے تو سانپ بچھو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔

گیڈڑ

فتہاء کے نزدیک گیڈڑ کا گوشت حرام ہے۔ یہ بات غلط طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ امام احمدؒ کے نزدیک گیڈڑ حلال ہے، ان کے صحیح قول کے مطابق گیڈڑ کا گوشت حرام ہے اس لئے یہ کہ درندوں کی طرح اپنے شکار کو نچلے دانٹوں سے نوچتا ہے۔

گیڈڑ کے طبئی اور روحانی فائدے

● اگر گیڈڑ کی زبان کسی گھر میں ڈال دی جائے تو وہاں باہمی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔

● گیڈڑ کا گوشت جنون اور مرگی والے مریض کے لئے باعثِ شفا ثابت ہوتا ہے۔

● اگر گیڈڑ کی دائیں آنکھ کو کسی جگہ لٹکا دیا جائے تو وہ جگہ نظر بد سے محفوظ رہے گی۔

● اگر کوئی شخص گیڈڑ کا دل اپنے گلے میں لٹکا کر جنگل یا باہان میں چلا جائے تو وحشی جانوروں کے حملے سے وہ محفوظ رہے گا اور کوئی جانور اسے نقصان نہیں پہنچا سیکے گا۔

● گیڈڑ کے خون سے زبان بندی کے تعویذ کئے جاتے ہیں اور بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔

☆ ☆ ☆

گینڈا

● امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک گینڈے کا گوشت حرام ہے۔ البتہ امام شافعیؒ کے نزدیک صرف مکروہ ہے۔

گینڈے کے طبئی اور روحانی فائدے

● گینڈے کے سینگ کے سرے پر موٹ کے مخالف جانب ایک شاخ ہوتی ہے اس کے خواص بڑے عجیب و غریب ہیں، اس کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس میں جھانک کر دیکھا جائے تو اس میں ایک گھوڑے سواری کی صورت نظر آتی ہے۔ یہ چیز

بہت قیمتی ہوتی ہے اور بادشاہ لوگ ہی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہر قسم کا عقدہ کھل جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی درو توج کا مریض اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو فوراً در دفع ہو جائے گا۔ اگر روزہ میں مبتلا عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو فوراً ولادت ہو جائے گی۔ اگر مرگی والے کے سر پر رکھ دیا جائے تو فوراً وہ ہوش میں

آجائے گا۔ جو اس کو اپنے گلے میں ڈال لے وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی اسی لمحے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر اس کو کسی

غضب آلود انسان کی کمر یا سینے سے منج کر دیا جائے تو فوراً اس کا غصہ کا نور ہو جائے گا۔

● اگر گینڈے کی آنکھ کسی انسان کے گلے میں ڈال دی جائے تو خدا کے فضل و کرم سے اس کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔

● گینڈے کی کھال سے بنی ہوئی ڈھال پرتکوار بالکل اثر نہیں کرتی۔

☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆

کتبہ روحانی دنیا، یوبند

لومڑی

● لومڑی کے گوشت کے سلسلے میں فقہاء کا زبردست اختلاف ہے۔ امام شافعی اس کی حلت کے قائل ہیں۔ امام احمد بن حنبل اس کی حرمت کے قائل ہیں اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک اسے مکروہ قرار دیتے ہیں۔

لومڑی کے طہی اور روحانی فائدے

- اگر لومڑی کا سر کاٹ کر کبوتروں کے ڈبے میں دبا دیا جائے تو کبوتر اس میں داخل ہوئے ڈریں گے۔
- اگر کوئی بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو اس کے گلے میں کسی کپڑے میں تعویذ بنا کر لومڑی کا دانت لٹکا دیا جائے انشاء اللہ بچے کا خواب میں ڈرنا بند ہو جائے گا۔
- لومڑی کا پتہ اگر کھسا کر مرگ اور جنون والے کو سگھادیا جائے تو مرگی اور جنون کا مرض ختم ہو جائے۔
- لومڑی کا گوشت کوڑھ اور مانچھ لیا کے مرض میں مفید ہے۔
- اگر اس کا خون کسی ایسے بچے کے سر پر لیا جائے جو قدرتی گنجا ہو تو اس کے سر پر بفضل خداوندی بال آگ آئیں۔
- لومڑی کے نوٹے کو خشک کر کے باریک پیس کر پانی میں ملا دیا جائے اور تولہ بھر پانی اگر کسی نامرد کو ملا دیا جائے تو اس کی نامردی دور ہو جائے۔
- خواب میں ڈرنے والے بچے کے نکیہ میں اگر لومڑی کی دم رکھ دی جائے تو بچے کا ڈر ناموقوف ہوگا۔
- لومڑی کی دم کو باریک پیس کر زعفران کے تیل میں ملا کر اگر عضو تھلس پریل

کتبہ روحانی دنیا، یوبند

● لیس تو بے بناہ قوت اسماک اور قوت جماع حاصل ہو۔
● واضح رہے کہ جو فائدے لومڑی کے ہیں لیکن وہی فائدے بھینڑیے کے بھی ہیں اگر لومڑی کا دستیاب ہونا مشکل ہو تو بھینڑیے کے اعضاء کو ان کاموں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مچھلی کا شرعی حکم

● مچھلی تمام ائمہ کے نزدیک حلال ہے۔ جانوروں میں صرف دو ہی جانور ایسے ہیں جو مرنے کے بعد حلال ہیں۔ ایک مچھلی اور دوسرے مٹھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے واسطے دوسرا حلال کر دئے گئے ہیں۔ مچھلی اور مٹھی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مچھلی مرنے کے بعد حلال رہتی ہے چنانچہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مچھلی مرنے کے بعد بھی حلال اور پاک ہے۔

مچھلی کے طہی اور روحانی فائدے

- مچھلی کا گوشت بے حد گرم ہوتا ہے اس لئے مچھلی کھا کر پیاس بہت لگتی ہے، مچھلی ان مہینوں میں کھانی چاہئے جن میں ”ز“ آتی ہو جن انگریزی مہینوں میں لفظ ”ز“ نہیں ہوتا ان میں مچھلی کا گوشت نقصان دیتا ہے۔
- جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں مچھلی کھانی چاہئے باقی چار مہینوں میں مٹی، جون، جولائی اور اگست میں مچھلی کا گوشت نقصان دیتا ہے۔
- مچھلی کے ساتھ دودھ، چھانچہ، شہد اور مسوری دال نہیں کھانی چاہئے بلکہ مچھلی کھانے کے بعد اگر گھنٹہ تک بھی یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہئیں۔ ورنہ خون میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، برص کا مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں بد پرہیزی

کرنے سے بچھڑنے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔

- مچھلی ماڈہ منویہ پیدا کرتی ہے، مفتوی دماغ ہے، دردِ کمر بخ کرتی ہے۔
- مچھلی کا گوشت اگر شرابی کو سنگھایا جائے تو اس کا نشہ ہرن ہو جائے
- اگر مچھلی اور پیکور کا پتہ ملا کر آنکھوں میں لگایا جائے تو موتیا کے لئے مفید ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔
- مچھلی نفرت اور محبت کے تعویذوں کے لئے بھی استعمال میں آتی ہے اور یہ عمل تیر بہدف ہوتے ہیں۔

مرغابی

● اس کا گوشت تمام امہ کے نزدیک جانتا ہے۔

مرغابی کے طبی اور روحانی فائدے

- مرغابی کا گوشت جسم کو فربہ کرتا ہے لیکن اس کا گوشت بلغم پیدا کرتا ہے اس لئے بلغمی مزاج کے لوگوں کو اس کا گوشت نہیں کھانا چاہئے۔
- اگر مرغابی کی زبان پابندی کے ساتھ کچھ دنوں تک کھائی جائے تو سلسلِ بول کی بیماری رنج ہو جاتی ہے۔
- مرغابی کا گوشت دردِ قویج کے لئے مفید ہے۔

مرغی

- مرغی بلا اتفاق حلال اور طیب ہے۔ مرغی ان حلال جانوروں میں سے ہے جس کا گوشت بہت ذوق و شوق کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔

مرغی کے طبی اور روحانی فائدے

- مرغی کا گوشت عقل میں اضافہ کرتا ہے، مٹی پیدا کرتا ہے، مرغی کا گوشت آواز کو صاف کرتا ہے، لیکن مرغی کا گوشت معدے کے لئے قدرے مضر ہے، مکرور معدے کے لوگ مرغی کا گوشت ہضم نہیں کر پاتے۔ اگر مرغی کا گوشت کھانے کے بعد شہد استعمال کر لیا جائے تو ہاضمہ درست رہتا ہے اور مرغی کا گوشت جلد ہاضم ہو جاتا ہے۔
- اگر مرغی انڈے دینے سے پہلے کھالی جائے تو یہ زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔
- اگر مرغی کو دس عدد پیاز ڈال کر پکایا جائے اور اس میں سو گرام سفید تل ڈال دئے جائیں اور پھر اس کو خوب اچھی طرح پکا کر استعمال کیا جائے تو شہوت اور قوتِ باہ میں اضافہ کرتا ہے۔

● اگر کالی مرغی کا پتہ عضوِ تناسل پر مل کر بیوی کے ساتھ مقاربت کی جائے تو فرط لذت سے بے خود ہو جائے۔

● اگر کالی مرغی کا سر کسی نئے برتن میں رکھ کر ایسے مرد کے پلنگ کے نیچے ڈون کر دیا جائے جو اپنی بیوی سے آئے دن جھگڑتا رہتا ہو تو وہ اس عمل کے بعد اپنی بیوی سے نہیں لڑے گا۔

● اگر بالکل سیاہ مرغی اور بالکل سیاہ مٹی کی آنکھیں سکھا کر پس لی جائیں اور پھر اُن کو کسی سرے میں محل کر کے آنکھوں میں لگایا جائے تو پوشیدہ مخلوقات دکھائی دیں اور ررحوں سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوگا۔

● جس شخص کی شہوت بند کر دی گئی ہو یا خود بخود دستاثر ہو گئی ہو اس کے لئے مندرجہ ذیل عمل انتہائی مفید ہے۔

عمل یہ ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات کو کسی کلوار پر دونوں طرف لکھا جائے پھر اس

جانوروں کے طبئی اور روحانی فائدے ۵۴ مکتبہ روحانی دنیا، یوبند

تکوار سے کالی مرغی کا ابلنا ہوا انڈے پھیلنے کے بعد تقریباً ہر دو حصوں میں کاٹا جائے۔ ایک حصہ شوہر کھالے اور دوسرا حصہ بیوی کو کھلا دیا جائے انشاء اللہ جماع پر قدرت حاصل ہو جائے گی۔ کلمات یہ ہیں۔ یکصم لالاوم ماما لالا لالا۔۔۔

● مرغ کے دونوں بازوؤں کے کنارے پر دو بیڈیاں ہوتی ہیں اگر دائیں بازو کی بیڈی بخار والے مریض کے دائیں بازو پر باندھ دی جائے تو بخار جاتا رہے گا۔

● مرغ کا خضیا اگر نبال کر اس عورت کو کھلا دیا جائے جس کے بچہ پیدا نہ ہوتا ہو تو وہ حاملہ ہو جائے گی لیکن مرغ کا خضیا اسی وقت استعمال کرنا چاہئے جب کسی حکیم یا ڈاکٹر کا مشورہ ہو کیوں کہ اس کا کھانا شرعاً ناجائز نہیں ہے۔ البتہ دوا کچھ کر کھلایا جا سکتا ہے جس کے لئے کسی حکیم یا ڈاکٹر سے رائے لینا ضروری ہے۔

● اگر مرغ کا خضیا کسی لڑنے والے مرغے کو کھلا دیا جائے تو کوئی مرغ اس پر غالب نہ ہو سکے گا۔

مکڑی کا شرعی حکم

● مکڑی بالاتفاق حرام ہے۔

مکڑی کے طبئی اور روحانی فائدے

● اگر تازہ زخموں پر مکڑی کا جالا لگا دیا جائے تو زخم جلد بھر جائیں۔

● اگر زخموں سے خون بند نہ ہو رہا ہو تو زخموں پر مکڑی کا جالا ل دیا جائے فوراً خون بند ہو جائے گا۔

● اگر شدید بخار والے کے بدن پر مکڑی کا جالا ل دیا جائے تو بخار ٹوٹ جائے گا۔

● اگر آنکھ میں درد ہو تو مگر چھ کی آنکھ کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لینے

● اگر آنکھ میں درد ہو تو مگر چھ کی آنکھ کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لینے

● اگر آنکھ میں درد ہو تو مگر چھ کی آنکھ کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لینے

● اگر آنکھ میں درد ہو تو مگر چھ کی آنکھ کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لینے

● اگر آنکھ میں درد ہو تو مگر چھ کی آنکھ کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لینے

جانوروں کے طبئی اور روحانی فائدے ۵۵ مکتبہ روحانی دنیا، یوبند

● مکھی کسی بھی طرح کی ہو حرام ہے۔ اگر سران یا کسی کھانے پینے کی چیز میں گرجائے تو اس کو ڈبو کر نکال دیا جائے کیوں کہ اس کے دائیں پہلو شفا اور بائیں پہلو میں بیماری ہے۔

● اگر مکھی کا سر جدا کر کے بھرٹھ کے کاٹے پر ل دیا جائے تو درد کو فوراً سکون ہو جاتا ہے۔

● اگر مکھیوں کو مار کر بچھرائیں بھون کر شہد میں ملا کر قدرتی مہنجے کے سر پر لگایا جائے تو عمدہ قسم کے بال نکل آتے ہیں۔

● اگر مکھیوں کا سر جدا کر کے متورم اعضاء پر ملا جائے تو تورم دور ہو جاتا ہے۔

● اگر کسی کے دانت میں شدید درد ہو تو چند مکھیاں مار کر انہیں کسی کپڑے میں سی کر اپنے بازو پر باندھ لے۔ انشاء اللہ فوراً درد موقوف ہوگا۔

● اگر سوکھیاں مار کر کسی کے گھر میں ڈن کر دی جائیں تو وہاں نیستی پھیل جائے گی۔

مگر چھ کا شرعی حکم

● مگر چھ کا گوشت اکثر فقہاء کے نزدیک حرام ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔

مگر چھ کے طبئی اور روحانی فائدے

● اگر آنکھ میں درد ہو تو مگر چھ کی آنکھ کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لینے

● اگر آنکھ میں درد ہو تو مگر چھ کی آنکھ کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لینے

● اگر آنکھ میں درد ہو تو مگر چھ کی آنکھ کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لینے

سے درد ہٹوف ہو جاتا ہے۔

● مگر چھ کی چربی اگر کان میں ڈالی جائے تو کان کا درد رفع ہو جاتا ہے۔

● اگر کسی کو کچھ پی کی شکایت ہو تو مگر چھ کی داہنیں جانب کا پہلا دانت نکال کر

گلے میں لٹکا لے انشاء اللہ کچھ پی کی شکایت دور ہوگی۔ بعض حضرات سے منقول ہے کہ یہ

طریقہ رعشہ کی بیماری میں بھی مفید ہے۔

● مگر چھ کے تین دانت اگر بازو پر باندھ لئے جائیں تو جماع کی قوت میں

اضافہ ہوتا ہے۔

● آنکھ کی سفیدی کو رفع کرنے کے لئے مگر چھ کا پتہ سکھا کر سرے میں ملا کر

استعمال کرنا چاہئے۔ انتہائی مفید اور مجرب ثابت ہوتا ہے۔

مور

● امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے البتہ امام شافعی کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے

مور کے طبی اور روحانی فائدے

● مور کا گوشت دیر میں ہضم ہوتا ہے۔ آرام طلب لوگوں کو مور کا گوشت نہیں

کھانا چاہئے

● جن لوگوں کو فانی یا لقوہ کا مرض ہو ان کے لئے مور کا گوشت جنگلی کبوتر کے

گوشت سے بھی زیادہ مفید ہے۔

● اگر اسہال کا مریض مور کا پتہ گرم پانی اور کھنجن میں حل کر کے پی لے تو

شفا یاب ہو جائے۔

● اگر مور کا پتہ سر کے میں حل کر کے پی لیا جائے تو زہریلے جانور کے کاٹے کا

زہر فوراً اتر جائے۔

● اگر مور کی ہڈیاں جلا کر جھانپوں پر مل دی جائیں تو انشاء اللہ جھانپاں ختم

ہو جائیں گی۔

مینڈھے کا شرعی حکم

● مینڈھے کا گوشت بالاتفاق بکری کے گوشت کی طرح حلال اور طیب ہے۔

مینڈھے کے طبی اور روحانی فائدے

● اگر مینڈھے کا خسیہ تل کر بطور دوا اس شخص کو کھلایا جائے جو رات کو بستر پر بیٹھا

کر رہتا ہو تو اس کا مرض رفع ہو جائے گا۔ بشرطیکہ دو تین مرتبہ کھالے۔

● رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق النساء کے علاج کے لئے سیاہ مینڈھے کی

دم کی تعریف کی ہے۔ فرماتے تھے کہ اوسط دور۔ یہ کہ نمر کے سیاہ مینڈھے کی دم کے تین

حصے کر لئے جائیں اور ہر ایک حصے کو نبال کر اس کا پانی تین دن تک پی لیا جائے تو درد

عرق النساء سے نجات مل جائے گی۔

● آدھا سسی کے درد کے لئے اگر تعویذ سفید مینڈھے کی کھال پر لکھ کر استعمال

کیا جائے تو بے حد مفید ہے۔

نیل گائے

● نیل گائے کا گوشت تمام فقہاء کے نزدیک بالاتفاق جائز ہے۔

نیل گائے کے طبی اور روحانی فائدے

● فاتح زدہ کو نیل گائے کا گوشت فائدہ پہنچاتا ہے۔

● اگر کوئی شخص نیل گائے کا سینگ اپنے پاس رکھے تو درندے اس سے دور بھاگیں گے۔

● اگر نیل گائے کے سینگ کی دھونی گھر میں دی جائے تو سانپ اور دوسرے زہریلے جانور گھر سے بھاگ جائیں گے۔

● اگر نیل گائے کے کھر جلا کر راکھ بنالیں اور پھر اس راکھ کو کسی مردہم میں ملا کر درو کی جگہ ماش کریں تو انشاء اللہ دروغ ہو جائے گا۔

● نیل گائے کے بالوں کی دھونی دینے سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔

● اگر نیل گائے کے سینگ باریک پیس کر انہیں کپڑے میں چھان کر کسی شروب میں ملا دے جائیں تو یہ شروب توت باہ کے لئے مفید ثابت ہوگا۔

● اگر نیل گائے کے سینگ کی راکھ تاک کے تھنوں پر لگا دی جائے تو تکسیر بند ہو جاتی ہے۔

● نیل گائے کے سینگوں کی راکھ سر کے میں ملا کر سورج کی طرف منہ کر کے برس میں لگانا بے حد مفید ہے۔

● اگر اس کی راکھ کو ایک رتی کے برابر پھانک لیا جائے تو پھانکنے والا جس سے بھی مقابلہ کرے گا بفضل خداوندی غالب رہے گا۔

ہاتھی اور اس کا شرعی حکم

● ہاتھی جنگل کے جانوروں میں سب سے بڑا اور عجیب و غریب قسم کا جانور ہے۔ اس کا گوشت اکثر امر کے نزدیک مکروہ ہے۔ امام ابوحنیفہ کی رائے بھی یہی ہے کہ ہاتھی کا گوشت مکروہ ہے۔

● اگر کوئی شخص ہاتھی کے کان کا میل کھالے تو وہ کئی دن تک سوتا رہے گا۔ دراصل اس کے کانوں کے میل میں عجیب طرح کا نشہ ہوتا ہے جو انسان کو مدہوش کر دیتا ہے اور یہ نشہ کسی طرح نہیں ٹوٹتا، بعض اوقات انسان اس میل کو پانی میں ڈال کر پی لینے سے ایک ہفتہ تک لگا تار سوتا رہتا ہے۔

● اگر ہاتھی کی چربی کو مسلسل تین دن تک برص کا مریض بطور ماش استعمال کرے تو انشاء اللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔

● اگر ہاتھی کی ہڈی کا ٹکڑا مرگی والے کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو مرگی ختم ہو جائے گی۔

● اگر ہاتھی کا دانت کسی پھل دار درخت پر لٹکا دیں تو اس پر پھل آنے بند ہو جائیں گے۔ جب تک یہ دانت وہاں بندھا رہے گا۔

● اگر کوئی شخص بقتدہ دورہ ہم ہاتھی کے دانت کا ٹکڑا شہد میں گھس کر چاٹ لے تو اس کا حافظہ بے حد قوی ہو جائے گا۔

● اگر یہی عمل بانجھ عورت کرے اور چاہتے ہی اپنے شوہر سے محبت کرے تو انشاء اللہ حاملہ ہو جائے گی۔

● اگر ہاتھی کی کھال کا ٹکڑا بخار والے مریض کے گلے میں تعویذ کی طرح لپیٹ کر ڈال دیا جائے تو اس کا بخار اتر جائے گا۔

● اگر ہاتھی کی غلاظت کو سکھا کر باریک پیس لیں پھر اس کو شہد میں ملا کر اس شخص کی پلکوں پر لگا دیں جو جھڑکی ہوں تو انشاء اللہ پلکیں دوبارہ نکل آئیں گی۔

● اگر ہاتھی کی کھال سے دھونی دے دی جائے تو باوریں خونی ہو یا مادی یا نکل ختم

● اگر ہاتھی کی کھال سے دھونی دے دی جائے تو باوریں خونی ہو یا مادی یا نکل ختم

ہو جاتی ہے۔

● اگر ہاتھی کی غلاظت سکھا کر عورت گلے میں باندھ لے تو وہ حاملہ نہیں ہوگی جب تک یہ غلاظت اس کے گلے میں بندھی رہے گی۔

ہد ہد

● ہد ہد کا گوشت بعض ائمہ کے نزدیک مکروہ اور بعض ائمہ کے نزدیک حرام ہے۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس کے گوشت سے احتراز رکھا جائے کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ بد بواہ کے گوشت سے منع فرمایا ہے۔

ہد ہد کے طبی اور روحانی فائدے

● اگر کسی گھر میں اس کے پردوں کی دھونی دے دی جائے تو وہاں سے کپڑے کھڑے بھاگ جائیں گے۔

● ہد ہد کی آنکھ اگر کوئی شخص اپنے گلے میں لٹکا لے تو اس کو بھولی ہوئی چیز یا بات یاد آجائے گی۔

● اگر کوئی شخص دس ہد ہد لے کر ان کے بال و پروں چ کر کسی مکان یا درکان میں دبا دے تو وہ مکان اور درکان تباہ و برباد ہو جائے گی۔

● اگر ہد ہد کا بچہ کسی کے گلے میں لٹکادیں تو اس کو کبھی نظر نہیں لگے گی۔

● اگر کوئی اس کی دم لے کر اور اس میں ہد ہد کا تھوڑا سا خون لگا کر کسی درخت پر باندھ دے تو اس درخت پر کبھی پھل نہیں آئیں گے۔

● ہد ہد کا کھانا اگر چہ حرام ہے لیکن اس کا گوشت بطور دوا اگر در و تونج میں شرعی فتویٰ حاصل کرنے کے بعد کھایا جائے تو درد و تونج کی بیماری دفع ہو سکتی ہے۔

● اگر ہد ہد کا دماغ نکال کر آٹے میں گوندھ لیا جائے اور پھر یہ روٹی کسی انسان کو کھلا دی جائے اور کھلانے والا روٹی کھلاتے وقت یہ کہے کہ اے فلاں ابن فلاں میں نے تجھے ہد ہد کھلایا ہے اور تجھے اپنا فرماں بردار بنا لیا ہے تاکہ تو میرے پاس اسی طرح حاضر باش رہا کرے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہد ہد ان کے پاس حاضر باش رہا کرتا تھا تو اس عمل کے اثر سے کھانے والا کھلانے والے سے بے پناہ محبت کرنے لگے گا۔

● اگر ہد ہد کا دماغ نکال کر سائے میں خشک کر کے اور اسے باریک چیس کر پسی ہوئی مصلیٰ رومی میں ملا کر ۲۱ عدد ورق آس اس میں کوٹ کر ملا دیئے جائیں پھر اس کا سفوف بنا لیا جائے پھر اس سفوف کو جسے بھی سگھادیں گے وہ سگھانے والے سے محبت کرنے لگے گا۔

● اگر ہد ہد کی داہنی آنکھ کسی نئے کپڑے میں پیٹ کر اپنے بازو پر باندھ لی جائے تو جس سے بھی ملاقات ہوگی وہ محبت و عزت سے پیش آئے گا۔

● ہد ہد کا خون گرم ہوتا ہے اگر اس کے خون کی بوند اس سفیدی پر مل لے جو کسی بیماری سے پیدا ہوگی یہ سفیدی ختم ہو جائے گی۔

● اگر ہد ہد بڑھ کر کے کسی گھر میں پورا کا پورا لٹکا دیا جائے یا دبا دیا جائے تو اس گھر پر جادو اثر نہیں کرے گا۔

● اگر نامرد یا سحر زدہ انسان کو اس کے گوشت سے دھونی دی جائے تو بفعیل خداوندی شفا نصیب ہو۔

● اگر ہد ہد کے بائیں بازو کے تین پر لے کر کسی گھر کے دروازے پر لٹکا کر ۳۰ دن تک صبح کو سورج نکلنے سے پہلے کوئی جھاڑو دے اور جھاڑو دینے والا یہ کہے جس طرح اس دروازے سے وصول اور غریب دور ہو گیا ہے اسی طرح فلاں ابن فلاں اس گھر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جانوروں کو خطاب میں دیکھنے کی تعبیر

ایک دلچسپ اور معلوماتی کتاب

مرتب

مولانا حسن الہاشمی

(فاضل دارالعلوم دیوبند)

ناشر

مکتبہ روحانی دنیا، محلہ ابوالعالی، دیوبند ۲۴۷۵۵۴

جانوروں کے طبی اور روحانی فائدے ۶۲ مکتبہ روحانی دنیا، دیوبند

سے دور ہو جائے۔ اس عمل سے وہ شخص جس کا نام لیا گیا ہے مکان چھوڑ کر چلا جائے گا۔

● اگر ہد کے بائیں بازو کو جلا کر اس کی راکھ کسی شخص کی راہوں میں بکھیر دی جائے اور اس پر اس شخص کا پیر رکھا گیا تو یہ راکھ بکھیرنے والے سے بے پناہ محبت کرنے لگے گا۔

● ہد کے بائیں بازو کا پرتخیر اور مقبویت کے لئے کام آتا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ اس پر کوئی چمڑے میں تعویذ کی طرح لپیٹ کر پھر اس تعویذ کو اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیا جائے۔

● اگر کسی دیوانے کو ہد کے تاج کی دھونی دی جائے تو اسے افاقہ ہو جائے۔

ہرن کا حکم

● ہرن کا گوشت بالا تفاقائے حلال اور جائز ہے۔

ہرن کے طبی فوائد

● ہرن کے سینگ کو چھیل کر اگر دھونی دے دی جائے تو تمام زہریلے جانور بھاگ جاتے ہیں۔

● ہرن کی زبان کو سائے میں سکھا کر اگر زبان دراز عورت کو کھلا دیا جائے تو اس کی زبان ورازی شہم ہو جائے گی۔

● ہرن کا منگ آنکھوں کو تقویت دیتا ہے۔ رطوبات کو جذب کرتا ہے اور قلب و دماغ کے لئے مقوی ہے۔

● منگ کا استعمال آنکھوں میں جبک بھی پیدا کرتا ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۸	چیونٹی	۷۳	تلی	۶۹	اونٹ
۷۸	خرگوش	۷۴	پرندہ	۶۹	ابابیل
۷۹	خزیر	۷۵	بھرنڈ	۷۰	اُتوری
۸۰	نختر	۷۵	تو	۷۰	باز
۸۰	دلفین	۷۶	مڈی	۷۱	بلبل
۸۱	رہچھ	۷۶	جوں	۷۱	بیل
۸۲	سانپ	۷۶	چمگادڑ	۷۲	بھینس
۸۳	شیر	۷۷	چھچھندر	۷۲	بھیریا
۸۴	شکرہ	۷۷	چوہا	۷۲	بندر

ضروری بات

اکابرین کی رائے کے مطابق خواب نبوت کا ۳۶ رواں حصہ ہے۔
خواب ایک طرح کی رہنمائی ہے جو رب العالمین کی طرف سے بندے کو ہوتی ہے۔

بعض خواب دلچسپ ہوتے ہیں لیکن تعبیر ان کی بھیا تک ہوتی ہے جب کہ بعض خواب بہت خوف ناک ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔

اکثر لوگوں کو خواب میں جانور نظر آتے ہیں اور جانور بھی مختلف انداز سے دکھائی دیتے ہیں۔ کس جانور کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ یہ جاننے کے لئے اس کتابچے کا مطالعہ کریں۔

اس کتابچے کو مرتب کرنے کے لئے حیات الحیوان سے مدد لی گئی ہے۔
جوئس پبلشرز دیوبند نے شائع کی ہے۔

خادم

حسن الہاشمی

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر

اونٹ

- علماء مجربین نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ مو مثل اونٹوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا تو یہ تعبیر دی جائے گی کہ وہ باعزت لوگوں کا حاکم بنے گا۔
- اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہیں تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ اس شہر میں دبا اور جنگ وغیرہ کا اندیشہ ہے۔
- اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کا مالک ہو گیا تو وہ عزت و شوکت سے مالا مال ہوگا۔
- اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا گوشت کھا رہا ہے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔

ابابیل

- ابابیل کی خواب میں تعبیر کبھی مرد سے یا عورت سے یا مال سے دیتے ہیں اور کبھی اس کی تعبیر مال منسوب سے بھی دی جاتی ہے اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ابابیل کو پکڑ لیا تو اس کی تعبیر مال حرام سے دی جائے گی جو خواب دیکھنے والے کو ملے گا۔
- اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت ساری ابابیل خود

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۹	مگر چھ	۹۱	گھوڑا	۸۳	شہد کی مکھی
۹۹	مینڈھا	۹۳	لومڑی	۸۵	شتر مرغ
۱۰۰	ہرن	۹۳	مرغی	۸۶	طوطا
۱۰۱	ہاتھی	۹۶	مرغا	۸۷	عقاب
۱۰۳	ہد ہد	۹۶	مکھی	۸۸	کوا
۱۰۵	مفرقات	۹۷	مچھلی	۸۸	فاختہ
		۹۷	مینڈک	۸۹	کبوتر
		۹۸	مور	۹۰	ستا
		۹۸	مکڑی	۹۱	گرگٹ



جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۶۹ مکتبہ روحانی دنیا دہلی پونہند

● اگر کسی عام آدمی نے باز کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے دنیا میں کوئی اہم مقام ملنے والا ہے۔

بیل

● اگر کوئی شخص بیل خواب میں دیکھے تو سمجھو غریب وہ دولت مند بننے والا ہے۔

● بیل کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ بھی ممکن ہے کہ کسی مال دار عورت سے شادی ہونے کا امکان ہے۔

● بعض معمرین نے فرمایا ہے کہ بیل کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد میں سے کوئی بچہ حافظ قرآن ہوگا اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن کا پڑھنے والا بھی ہوگا۔

بیل

● تیل کو خواب میں دیکھنا انتہائی مفید اور سود مند ہوتا ہے۔

● اگر کوئی شخص تیل خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی صاحب قوت اولاد پیدا ہونے والی ہے۔

● اگر عام انسان تیل کو خواب میں دیکھے تو اسے کسی ذریعہ سے طاقت ملنے کی امید ہے۔

● اگر کسان تیل کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔

● کوئی مریض خواب میں بیل دیکھے تو سمجھے کہ اس کو صحت نصیب ہونے والی ہے۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۶۸ مکتبہ روحانی دنیا دہلی پونہند

● اگر گھس گھس تو اس کی تعبیر مال حلال سے دی جائے گی جو خواب دیکھنے والے کی تقدیر میں ہے۔

● اگر کوئی شخص ابا تیل کا شکار کرتے ہوئے خود کو دیکھے تو سمجھو اس کے گھر میں چوری ہوگی اور اگر کسی اور کو دیکھے تو جس کو خواب میں شکار کرتا ہوا دیکھے اس کے گھر چوری ہوگی۔

الو

● اگر کوئی کنوارہ شخص الو کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی شادی کسی بے کرد عورت سے ہوگی۔

● اگر شادی شدہ آدمی خواب میں الو کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ بے راہ ہو جانے کی دی جائے گی۔

باز

● باز کو کسی حاکم کا خواب میں دیکھنا اس کی سلطنت کی طرف اشارہ ہے، بس اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ باز اس کے ہاتھوں سے اڑ گیا لیکن اس کی ٹانگیں ہاتھوں میں رہ گئیں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، صرف نام باقی رہ جائے گا اور اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ باز اڑ گیا اور اس کے پر ہاتھ میں رہ گئے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور مال تھوڑا سا باقی رہ جائے گا۔

● خواب میں باز کو ذبح کرنا کامیابی پر دلالت کرتا ہے کہ جن امور کے لئے جدوجہد کی جارہی ہے اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۷۰ مکتبہ روحانی دنیا دیوبند

بھینس

- اگر کوئی مرد بھینس خواب میں دیکھے تو اسے ایسا لڑکا یا ملازم ملنے والا ہے جو حد سے زیادہ بوجھ برداشت کرنے کا عادی ہوگا۔
- اگر کوئی عورت بھینس خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی شادی کسی حاکم سے ہوگی۔
- اگر شادی شدہ عورت بھینس خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے گھر کوئی صاحب شوکت لڑکا پیدا ہوگا۔

بھیڑیا

- بھیڑیے کو خواب میں دیکھنا کذب، عداوت اور حیلے کی دلیل ہے، یعنی خواب میں دیکھنے والا یا خود کاذب، دشمنی رکھنے والا اور حیلے باز واقع ہوگا، ورنہ پھر اسے ایسے شخص سے واسطہ پڑے گا جس میں یہ عیب موجود ہوں گے۔
- اگر کسی نے بھیڑیے کے بچے کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی لاوارث بچے کی پرورش کرے گا جو بڑا ہو کر چور بنے گا۔
- اگر کوئی شخص بھیڑیے اور کتے کو ایک سات دیکھے تو کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑنے والا ہے جو منافق اور دھوکے باز ہوگا۔

بندر

- بندر کو خواب میں دیکھنا، ایسے شخص کو خواب میں دیکھنا ہے جس میں ہمہ قسم کے عیوب موجود ہوں۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۷۱ مکتبہ روحانی دنیا دیوبند

- اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں سے لڑ رہا ہے اور بندر اس پر غالب آگئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی بیماری میں گرفتار ہوگا مگر پھر صحت یاب ہو جائے گا۔

- اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندر کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی مہلک بیماری کا شکار ہوگا اور کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوگا۔

- اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ بندر اس کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا۔

- اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے وہ کھانا کھا رہا ہے اور بندر بھی کوئی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ کوئی نعمت کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس سے چھینے والی ہے۔

- اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے بندر کا شکار کیا تو اسے جادو اور سحر سے نجات حاصل ہوگی۔

بلی

- اگر کوئی شخص بلی کو خواب میں دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ گھر کے لئے کوئی محافظ نوکر ملنے والا ہے۔

- اگر بلی کو کسی چیز پر بچھینے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی چوری ہوگی اور گھر ہی کا کوئی آدمی چوری کرے گا۔

- اگر خواب میں دیکھا ہے کہ بلی نے بچہ مارا ہے یا دانتوں سے کاٹا ہے تو کوئی خادم خیانت کا مرتکب ہوگا۔

- اگر کوئی شخص بلی کو خاموش بیٹھا دیکھے تو آنے والا اسراں خوش حالی کے ساتھ

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۷۲
گزرے گا۔

● اگر کسی نے دیکھا ہے کہ وہ بلی فروخت کر رہا ہے تو آنے والا سال فضول خرچی میں گزرے گا۔
● کسی کو خواب میں بلی کا گوشت اگر کھاتے دیکھا گیا تو سمجھیں کہ وہ جاوکی تعلیم حاصل کرے گا۔

پرندہ

● خواب میں حسین پرندہ دیکھنا سخن عمل کی دلیل ہے یا اس کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے گا۔
● جو شخص خواب میں جنگلی بدخلق پرندے کو دیکھے تو اس سے بد عملی کی جانب اشارہ ہوتا ہے، یا اس کے پاس کوئی خبر آئے گی۔
● اگر پرندہ کا گھونسلہ خواب میں عام آدمی دیکھے تو بیوی ملنے والی ہے اور اگر کوئی اللہ والا دیکھے تو وہ اس وقت عرفان و اخلاص کے جس مقام پر ہے بس یہی اس کا آخری مقام ہے۔

● اگر حاملہ عورت گھونسلہ دیکھے تو ولادت بعافیت کی طرف اشارہ ہے۔
● پرندوں کے انڈوں کو خواب میں دیکھنا اولاد کی طرف اشارہ ہے، جتنے انڈے خواب میں دیکھے گا اتنی ہی اولاد اس کے مقدر میں لکھی ہے۔

● اگر کوئی پرندوں کے پر خواب میں دیکھے تو اس کو مال ملنے والا ہے، یا اس کے گھر میں قیمتی ساز و سامان آنے والا ہے۔

● اگر کوئی کسی پرندے کی چونچ خواب میں دیکھے تو یہ عزت و رزقت کی دلیل ہے
● اگر کوئی کسی پرندے کی بیٹ خواب میں دیکھے تو حرام پرندے کی بیٹ سے

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۷۳
مال حرام اور صلال پرندے کی بیٹ سے مال حلال مراد ہوتا ہے۔

بھرنڈ

● بھرنڈ خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی جنگجو دشمن سے سابقہ پڑنے والا ہے۔

● بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بھرنڈ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت زہر نوشی سے ہوگی۔

ٹٹو

● ٹٹو کو خواب میں دیکھنے کی تعبیریں مختلف ہیں، بعض معجزین نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں ٹٹو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے۔

● اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا ٹٹو چوری ہو گیا ہے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیگا۔

● اگر خواب میں ٹٹو کی چوری دیکھی لیکن فی الحقیقت اس ٹٹو کا وہ مالک نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی کسی عورت سے شادی ہوگی اور پھر چھوٹ چھٹاؤ تک بات پہنچے گی، مگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کسی کا ٹٹو چوری کر کے لے جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی شادی شدہ عورت سے عشق کرے گا اور بالآخر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا۔

● اگر کسی نے خود کو ٹٹو پر سوار دیکھا تو اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

ٹڈی

● ٹڈی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اللہ کے لشکر اور اس کے عذاب سے دی جاتی ہے۔

● چھوٹی ٹڈی کو خواب میں دیکھنا بد اخلاق اور بے کردار لوگوں سے سابقہ پڑنے کی طرف اشارہ ہے۔

● اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی بڑے نقصان کی تلافی چاہتے ہیں۔

جوں

● اگر کسی نے خواب میں جوں کو زمین پر ریگلتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کوئی کمزور دشمن ہے جو بہت بدخواہ ہے لیکن اس کا قابو نہیں چل پاتا۔

● اگر جوں خواب میں کاٹے تو سمجھا جائے کہ قرض خواہ بہت جلد قرض کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔

● اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس کے کپڑے میں جوئیں چسپی ہوئی ہیں تو سمجھا جائے کہ خواب دیکھنے والا عنقریب حاکم وقت کی برائیاں بیان کرے گا جو ساری دنیا میں شہت از باہم ہوں گی۔

چمگاڈڑ

● خواب میں اگر کوئی چمگاڈڑ کو دیکھے تو سمجھے کسی اچھے دوست سے ملاتا ہوتی ہے۔

● دوران جنگ چمگاڈڑ کو خواب میں دیکھنا نصیب ہونے کی علامت ہے۔

● اگر حاملہ عورت خواب دیکھے تو بچے کی ولادت آسانی کے ساتھ ہونے کی

طرف اشارہ ہے۔

● اگر کوئی ایسا شخص چمگاڈڑ کو خواب میں دیکھے جو اپنے وطن سے دور ہو تو تعبیر یہ دی جائے گی کہ وہ عنقریب اپنے وطن واپس ہوگا۔

چھچھوندرا

● اگر کوئی چھچھوندرا کو خواب میں دیکھے تو سمجھے کہ اس کی بینائی کو خطرہ درپیش ہے

● چھچھوندرا کو خواب میں دیکھنے سے مختلف پریشانیوں آنے کا بھی اندیشہ ہے۔

● اگر کوئی بیمار آدمی چھچھوندرا کو خواب میں دیکھے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔

چوہا

● اگر کوئی شخص چوہا خواب میں دیکھے تو اس کی شادی کسی فاسق عورت سے ہونے والی ہے۔

● اگر کوئی شخص خواب میں کافی تعداد میں چوہے دیکھے تو یہ رزق کی فراوانی کی علامت ہے۔

● اگر کوئی شخص خواب میں چوہے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھے تو یہ خیر و برکت ختم ہونے کی علامت ہے۔

● اگر کوئی خواب میں چوہوں کو کھیل کود کرتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا آنے والا سال خوش حالی میں بسر ہوگا۔

● اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ چوہا اس کے کپڑے کاٹ رہا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔

چیونٹی

خواب میں چیونٹیاں دیکھنا حرص و ہوس میں مبتلا ہوجانے کی علامت ہے۔

• اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کی بستی میں چیونٹیاں کثیر تعداد میں داخل ہو رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس بستی پر کوئی فوج کشی کرے گا یا وہ بستی لیروں کی نذر ہو جائے گی۔

• اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ بے شمار چیونٹیاں اس کے بستر پر ہیں تو اس کی تعبیر کثیر اولاد سے دی جائے گی۔

• اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی مکان سے چیونٹیاں اڑ کر نکل رہی ہیں اور اس گھر میں کوئی مریض ہو تو تعبیر یہ ہوگی کہ عترت بیدہ مریض وفات پا جائے گا۔

• اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے بدن پر چیونٹیاں لپٹی ہوئی ہیں تو تعبیر یہ ہوگی کہ ثواب دیکھنے والا اس دارقانی سے رخصت ہونے والا ہے۔

• اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ چیونٹیاں گہوں یا چاول وغیرہ کے دانے لے کر اس کے گھر میں داخل ہو رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا عترت مال دار ہو جائے گا اور اس کے گھر میں رزق کی خوب فراوانی ہوگی۔

خرگوش

• اگر کوئی شخص خواب میں خرگوش دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو کسی خوبصورت لیکن بے وفا عورت سے سابقہ پڑنے والا ہے۔

• اگر کوئی شخص خواب میں خرگوش کو ذبح ہوتا دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی بیوی مر جائے گی۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر

مکتبہ روحانی دنیا دیوبند

• اگر کوئی خواب میں خرگوش کا گوشت کھائے تو اس کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اسے وہ مہ و گمان بھی نہ ہوگا۔

• اگر کوئی کتوارہ شخص خواب میں خرگوش کا شکار کرنے تو عترت اس کی شادی ہو جائے گی۔

• اور اگر شادی شدہ آدمی خواب میں خرگوش کا شکار کرے تو اس کے اولاد ہوگی یا پھر وہ اپنے مخالفین پر غالب آجائے گا۔

• خواب میں سفید خرگوش دیکھنا اچھا ہے اور کالا خرگوش دیکھنا اچھا نہیں ہے، جو شخص خواب میں کالا خرگوش دیکھے تو اس کو کوئی غم پیش آنے والا ہے۔

خنزیر

• اگر کوئی خواب میں خنزیر (سور) دیکھے تو تنگ دستی اور افلاس سے وہ شخص دو چار ہوگا۔

• بعض سماء نے فرمایا ہے کہ خنزیر کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی طاقت ور دشمن ہے جو عترت بے انتصاف پہنچائے گا یا پھر کوئی کمزور دشمن ہے، لیکن دوستی کے روپ میں دشمنی کر رہا ہے اس لئے اس کے وار سے بچنا ممکن نہیں ہے۔

• اگر کوئی شخص خود کو خنزیر پر سوار دیکھے تو وہ عترت مالدار ہو جائے گا۔

• اگر کوئی شخص خواب میں خنزیر کا گوشت کھائے تو مال حرام اسے کہیں سے ملے والا ہے۔

• اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ خود خنزیر بن گیا ہے تو یہ ذلیل و خوار ہونے کی علامت ہے یا پھر اس کو غلط راستے سے دولت ملے گی، لیکن اس کا دین پامال ہوگا۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۷۸

● اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خنزیر کو چرا رہا ہے تو اس کے تعلقات یہود و نصاریٰ سے قائم ہونے والے ہیں جو اس کے دین کے لئے ضرر رساں ثابت ہوں گے۔
● اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی خنزیر بن گئی ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب اسے خواب دیکھنے والا طلاق دے دیگا اور وہ اسی طرح اس کے لئے حرام ہو جائے گی جس طرح خنزیر کھانا حرام ہے۔

خنجر

● اگر کسی نے خواب میں خنجر پر نمودار دیکھا تو سمجھئے کہ وہ لمبی عمر پائے گا۔
● اگر کسی نے خواب میں خنجر کی مادہ دیکھی تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی بیوی بانجھ ہے، جس سے کبھی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔
● کالا خنجر دیکھنے سے دولت اور سفید خنجر دیکھنے سے عزت ملتی ہے۔
● اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ خنجر سے اتر رہا ہے تو وہ اپنے عہدے سے معزول ہو جائے گا۔
● اگر کسی نے خواب میں خنجر کا گوشت کھایا تو اس کی دوستی کسی ایسے شخص سے ہوگی جس میں دغا و شرافت نہیں ہوگی۔

دلفین

● دلفین ایک قسم کی مچھلی ہوتی ہے جو سمندر میں پائی جاتی ہے۔
● اس کو خواب دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ انسان کسی کی غیبت میں مبتلا ہو گیا مگر ذریعہ کا شکار ہوگا۔
● اگر کوئی خوفزدہ شخص دلفین کو خواب میں دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب اس

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۷۹

● شخص کو خوف اور دہشت سے نجات مل جائے گی۔
● اگر کوئی شخص خواب میں دلفین کو خشکی میں بڑا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی ایسا دشمن ہے جو اسے نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔

ریچھ

● ریچھ کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی شرم میں مبتلا ہوگا۔
● اگر کسی شخص نے ریچھ کو بھاگتے ہوئے خواب میں دیکھا تو تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کسی کے ساتھ کرفریب کرے گا۔

● اگر خواب میں یہ دیکھا کہ ریچھ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اور خواب دیکھنے والے کے ساتھ دجل و فریب کرے گا۔
● اگر کوئی شخص ریچھ کو ناپتے ہوئے دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ کسی ایسی عورت سے واسطہ پڑے گا جو گانے بجانے والی ہوگی۔

● اگر کوئی ریچھ کو بندھا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا عنقریب گرفتار ہوگا۔

● اگر کوئی شخص خود کو ریچھ پر سوار دیکھے اور اس میں نیکی کی صلاحیت ہو تو اس شخص کو ولایت کا مرتبہ حاصل ہوگا۔

● اگر کوئی شخص خود کو ریچھ پر سوار دیکھے لیکن ولایت کا اہل نہ ہو تو اسے بے شمار رنج و غم کا سامنا کرنا پڑے گا۔

● بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو ریچھ پر سوار دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا عنقریب دور دراز کا سفر کرے گا۔

سانپ

- سانپ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی دشمن ہے۔
- اگر خواب میں دیکھا کہ سانپ بھاگ گیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ کوئی دشمن ہے لیکن وہ بہت چالاک ہے اور اس پر خواب دیکھنے والے کا زور نہیں ہے۔
- اگر خواب میں دیکھا کہ سانپ کو مار ڈالا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا حسن تدبیر یا حکمت عملی سے دشمن کو فتح کر لے گا۔
- اگر خواب میں دیکھے کہ سانپ کچا گوشت کھا رہا ہے تو دشمن کی موت کی طرف اشارہ ہے۔
- اگر خواب میں دیکھا کہ سانپ نے کاٹ کھمایا تو تعبیر یہ ہوگی کہ دشمن کا حملہ کارگر ہوگا اور خواب دیکھنے والے کو جانی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔
- اگر کوئی خواب دیکھے کہ سانپ اس کے منہ سے نکلا ہے اور خواب دیکھنے والا بیمار ہو تو یہ اس کی موت کی طرف اشارہ ہے، اگر سانپ کو درختوں اور کھیتوں میں بھاگتے، دوڑتے ہوئے دیکھے تو خواب دیکھنے والے کی بیوی کی موت کی طرف اشارہ ہے۔
- اگر خواب میں دیکھا کہ گھری چھت سے سانپ گرا ہے تو گھر کے معزز ترین شخص کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔

شیر

- اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اس کی طرف بھاگ رہا ہے تو تعبیر یہ

- ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو کسی مہلک مرض سے نجات ملے گی۔
- اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کی ہڈی اور گوشت لئے ہوئے ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب اسے کسی دشمن یا ظالم انسان سے مال و دولت ملے گی۔
- اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہو گیا لیکن خوف زدہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا اور اگر خوف زدہ نہیں ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے دشمن پر جلد غالب آجائے گا۔
- اگر خواب میں دیکھا کہ بے خوف و ہراس شیر کے برابر میں لیٹا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ دشمن کی تمام چالوں سے محفوظ رہے گا۔
- اگر خواب میں دیکھا کہ شیر کا سہمہ میں سے تو اقتدار نصیب ہوگا۔
- اگر خواب میں دیکھا کہ شیر کو کچھ کھلا رہا ہے تو کسی دشمن سے بھائی چارے کی بات کرنے کا اور کامیاب رہے گا۔
- اگر خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی گود میں شیر کے بچے کو لئے بیٹھا ہے پس اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ عنقریب اس کے لڑکا پیدا ہوگا اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے یا بیوی فوت ہو چکی ہے یا ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان صورتوں میں کسی حاکم کے فرزند کی پرورش کرنے کا اس کو موقع ملے گا۔
- اگر شیر کو چنگھاڑتے ہوئے دیکھا تو عنقریب کوئی مہلک بیماری کا حملہ ہوگا۔
- اگر دیکھا کہ شیر نے اسے بھاڑ ڈالا تو کسی قید سے نجات ملے گی۔
- اگر خواب میں دیکھا کہ شیر اس کے ساتھ چالوسی کر رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا ساری دنیا میں مشہور ہوگا اور اس کی ذہانت سے عجیب و غریب امور سرزد ہوں گے۔

شکرہ

- خواب میں شکرہ دیکھنا اچھا ہے، اس سے عزت، اقتدار، دشمنوں کے خلاف ٹھہری مدد، خواہشات کی تکمیل، رتبے کا حصول، محبت کرنے والی بیوی اور اطاعت کرنے والی اولاد، رزقِ حلال کی دستیابی، صحت اور سکون و عافیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جو شخص شکرے کو خواب میں دیکھے گا اسے مذکورہ بالا نعمتوں میں سے کوئی نہ کوئی نعمت انشاء اللہ ضرور ملے گی۔
- اگر کوئی شخص شکرے کو بچہ مرنے میں دیکھے تو یہ اچھا نہیں ہے، اس سے خواب دیکھنے والے کا کسی مصیبت میں پھنس جانے کی طرف اشارہ ہے۔
- اگر خواب میں دیکھے کہ شکرہ اسی کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے پر کوئی بہادر شخص مہربان ہوگا اور اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہو تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی بیوی کے بہادر لڑکا پیدا ہوگا۔
- اگر خواب میں دیکھے کہ شکرہ چڑیوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو یہ وسعت مال کی علامت ہے۔

شہد کی مکھی

- خواب میں شہد کی مکھیوں کو دیکھنا خطرے کے ساتھ مال جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے۔
- اگر کسی نے خواب میں شہد کی مکھیوں کا چھتہ دیکھا اور اس سے شہد نکالا تو حلال مال حاصل کرے گا اور اس نے پورا شہد نکال لیا کچھ بھی نہیں چھوڑا تو اس سے کوئی ظلم و ستم بھی سرزد ہوگا اور اگر کچھ چھوڑ دیا تو یہ شخص زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی

نہیں کرے گا۔

- اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شہد کی مکھیاں اس کے سر پر بیٹھی ہیں تو وہ حکومت اور سرداری حاصل کرے گا، اگر یہی خواب بادشاہ دیکھے تو وہ کسی اور ملک پر قابض ہوگا۔
- اگر کسان یہ خواب دیکھے کہ شہد کی مکھیاں اس کے ہاتھ پر بیٹھی ہیں تو کھیتی پر دان چڑھنے کی طرف اشارہ ہے اور اگر یہ خواب کوئی فوجی دیکھے تو عنقریب جنگ میں جتلا ہونے کی دلیل ہے۔
- اگر کسی نے بہت سارا شہد خواب میں دیکھا تو اس کو پاکیزہ روزی حاصل ہوگی۔
- اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوگوں کو شہد کھلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ شخص اچھا واعظ بنے گا۔
- اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود شہد چاٹ رہا ہے تو خواب دیکھنے والے کو عنقریب خوبصورت عورت حاصل ہوگی۔
- اگر کسی نے خواب میں اپنے سامنے شہد رکھا ہو اور دیکھا تو علم کی علامت ہے۔
- اگر کسی نے شہد کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کسی عہدے سے معزول ہوگا۔

شتر مرغ

- اگر کسی نے خواب میں شتر مرغ دیکھا تو اس کی شادی کسی دیہاتی عورت سے ہوگی۔
- بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ شتر مرغ خواب میں نظر آئے تو کوئی بڑی

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۸۳ مکتبہ روحانی دنیا، دیوبند

نعمت حاصل ہوتی ہے۔

● اگر کسی مرد نے خواب میں دیکھا کہ کسی شتر مرغ پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی شادی کسی ایسی عورت سے ہوگی جو زبان دراز اور دماغی پالیسی والی ہوگی۔

● اگر کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ شتر مرغ پر سوار ہے تو اس کی شادی کسی نامرد سے ہوگی۔

● اگر کسی شخص نے شتر مرغ کو مردہ دیکھا تو یہ اس کی اپنی موت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔

● اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص شتر مرغ کو مار رہا ہے تو اگر مارنے والے کو خواب دیکھنے والا پہچان رہا ہے تو عقرب وہ مرجائے گا اور اگر اجنبی شخص ہے تو خواب دیکھنے والے کا کوئی قریبی عزیز دنیا سے رخصت ہوگا۔

● اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شتر مرغ اس کی طرف چل کر آ رہا ہے تو یہ نعمت کے آنے کی علامت ہے اور کسی نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ کسی نعمت کے چھین جانے کی علامت ہے۔

طوطا

● طوطے کو خواب میں دیکھنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر کسی نے خواب میں طوطے کو کسی درخت پر بیٹھے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ کسی دھوکے باز اور چالاک انسان سے سابقہ پیش آنے والا ہے۔

● اگر دیکھا کہ طوطا درخت پر بیٹھا تھا پھر اڑ گیا تو تعبیر ہوگی کہ دھوکے باز دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۸۵ مکتبہ روحانی دنیا، دیوبند

● اگر طوطے کو پیڑوں میں دیکھا تو کسی ہتیم سے سابقہ پیش آئے گا۔

● بعض مجربین نے فرمایا ہے کہ پیڑوں میں بند طوطے کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ خاندان میں کسی کی موت ہونے والی ہے اور کچھ بچے ہتیم ہونے والے ہیں۔

عقاب

● اگر کسی صاحب اقتدار نے خواب میں باز دیکھا تو اس کے لئے اچھی علامت نہیں ہے۔

● پس اگر دیکھا کہ باز اڑ گیا اور اس کے ہاتھوں میں صرف بچے باقی رہ گئے تو تعبیر یہ ہوگی کہ عقرب اقتدار ہاتھ سے چلا جائے گا اور صرف نام اور شہرت باقی رہ جائے گی۔

● اور اگر دیکھا کہ باز اڑ گیا اور ہاتھوں میں اس کے کچھ پر باقی رہ گئے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اقتدار عقرب چلا جائے گا اور کچھ مال و زر باقی رہ جائے گا۔

● خواب میں باز کا ذبح کرنا کامیابی کی علامت ہے۔

● پس اگر کسی عام آدمی نے دیکھا کہ بہت سے باز ذبح کئے جا رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ظلم کرنے والے بادشاہ عقرب یا تو مرجائیں گے یا پھر اقتدار سے محروم ہو جائیں گے اور رعایا کو امن و امان نصیب ہوگا۔

● اگر کوئی عام آدمی باز کو اڑتے ہوئے دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس پر خدا کا فضل ہونے والا ہے۔

● اگر حاملہ عورت باز خواب میں دیکھے تو یہ نرینہ اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ انشاء اللہ اس کے گھر فرزند تولید ہونے والا ہے۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۸۶

مکتبہ روحانی دنیا اور بوند

کوا

- اگر خواب میں کسی نے کوا دیکھا تو کسی مہمان کے آنے کی علامت ہے۔
- اگر کسی نے خواب میں سرخ چوچ کا کوا دیکھا تو تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب کوئی عیش پرست مہمان آنے والا ہے اور اس کے آنے کے بعد گھر میں عیش پرستی اور لہو و لعب کا بازار گرم ہوگا۔
- اگر خواب میں دیکھا کہ کوا پر کتا ہوا ہے تو یہ ولد الزنا کی علامت ہے کہ خدا نخواستہ کسی ولد الزنا سے سابقہ پیش آنے والا ہے یا پھر کسی ولد الزنا کی اپنے گھر یا کسی رشتے دار کے گھر پیدائش ہونے والی ہے۔
- اگر خواب میں مہرا ہو کوا دیکھا تو یہ کسی دوست کی موت کی علامت ہے کہ عنقریب کسی قریبی دوست کے جلد مرنے کی اطلاع ملنے والی ہے۔
- کوئے کو اگر کسی جگہ مہرا ہوا کوا خواب میں دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا عنقریب کسی گناہ کی سزا میں ماخوذ ہوگا۔

فاختہ

- اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے فاختہ خریدی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب وہ والد دار ہونے والا ہے۔
- اگر کوئی خواب میں فاختہ کو بذر ریعہ جال بیڑے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مال حرام اس کے پاس آنے والا ہے۔
- اگر کوئی خواب میں فاختہ کو بولتے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کسی بے وفا اور بد زبان عورت یا ملازم سے سابقہ پڑنے والا ہے۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۸۷

مکتبہ روحانی دنیا اور بوند

کبوتر

- اگر کوئی خواب میں فاختہ اڑتی ہوئی دیکھے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرنے والی ہے۔
- خواب میں بالعموم کبوتر کو دیکھنا، امین، قاصد، سچے دوست اور باوفا محبوب کے ملنے کی علامت ہے، بالخصوص اگر خواب میں سفید کبوتر کو دیکھے تو عنقریب کوئی محبت کرنے والا ساتھی نصیب ہونے والا ہے۔
- اگر کبوتر کو بولتے ہوئے دیکھے تو عنقریب کسی نوے کی محفل میں شرکت کرنے کی نوبت آنے والی ہے۔
- اگر خواب میں کوئی کبوتری نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب کوئی باوفا اور محبت کرنے والی عورت ملنے والی ہے۔
- اگر کبوتر کسی مریض کے سر ہانے بیٹھا خواب میں نظر آئے تو یہ مریض کی موت کی دلیل ہے کہ وہ اسی مرض میں وفات پائے گا۔
- اگر خواب میں دیکھے کہ کبوتر کسی مریض کے سر ہانے بیٹھا ہے اور پھراڑ گیا تو یہ صحت مند ہو جانے اور زندگی کے باقی رہنے کی علامت ہے۔
- اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کبوتروں کو داننا ڈال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب وہ قوم کی قیادت کرے گا۔
- اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ کوئی کبوتر اڑتا، داس کے پاس آیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب کوئی پیغام آنے والا ہے۔
- اگر کوئی دیکھے کہ کبوتری اڑ کر نظروں سے غائب ہوگئی تو عنقریب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا یا وہ انتقال کر جائے گی۔

● اگر کوئی خواب میں کبوتر پکڑے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب اس کو دولت ملنے والی ہے۔

● اگر کوئی خواب میں ایسی کبوتری دیکھے جس کی ایک آنکھ خراب ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی بیوی کے اخلاق و کردار میں کچھ کمی ہے۔

● اگر کوئی خواب میں ایک ساتھ بہت سارے کبوتر دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کثیر العیال ہوگا۔

● اگر کوئی خواب میں کبوتر کو زخمی دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب اسے کوئی رنج پہنچنے والا ہے۔

کتا

● اگر خواب میں کتا نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب انسان کسی کے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا۔

● اگر کتے کو خواب میں بھونکتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا عنقریب بڑے گناہوں کا مرتکب ہوگا۔

● اگر کتے کو خواب میں دیکھے کہ کتے نے اس کے کاٹ لیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ عنقریب اسے دشمنوں سے ایذا پہنچے گی۔

● اگر کوئی شکاری کتے کو خواب میں دیکھے تو یہ اچھا ہے، یہ مال ملنے کی طرف اشارہ ہے۔

● اگر کوئی کتیا کو خواب میں دیکھے تو اگر خواب دیکھنے والا کنوارا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی شادی دشمن قوم کی لڑکی سے ہوگی اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو تعبیر یہ ہوگی

● اس کے تعلقات دشمن قوم کی لڑکی سے ناجائز طور پر قائم ہوں گے۔

● اگر کوئی خواب میں کتیا کا ہلکا دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ راستے میں کوئی ناجائز بچہ پڑا ہوا ملے گا۔

گرگٹ

● اگر کوئی شخص خواب میں گرگٹ کو دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ حاکم بہر حال اقتدار پر بحال رہے گا، وہ رنگ بدلنا ہے گا لیکن کسی نہیں چھوڑے گا۔

● گرگٹ کو خواب میں دیکھنے سے یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ عنقریب دین میں کوئی رخنہ پیدا ہونے والا ہے۔

● اگر کوئی خواب میں گرگٹ کو مراد ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر میں کسی عزیز کی موت ہونے والی ہے۔

● اگر کوئی گرگٹ کو بھاگتا ہوا دیکھے تو یہ فساد اور جھگڑے کی نشان دہی ہے۔

گھوڑا

● اگر کوئی خواب میں گھوڑا دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب اسے مال دوز ملنے والا ہے۔

● اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو عزت اور فوقیت کا مقام ملنے والا ہے۔

● اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور گھوڑا بھاگ رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کے دشمن جو بھی سازش کا جاہل نہیں گے یہ ان سے نکل جائے گا اور دشمنوں کو اپنی چالوں میں ناکامی ہوگی۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۹۰

کتبہ روحانی دنیا دیوبند

● اگر کوئی خواب میں گھوڑا اڑتے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب وہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے والا ہے۔

● اگر کوئی خواب میں خود کو گھوڑے پر سوار اس حال میں دیکھے کہ گھوڑا غلط جگہ پر ہو یعنی زمین کے بجائے کسی چھت پر، کسی ٹیلے پر یا کسی پلنگ یا مسہری پر کھڑا ہو تو اس کی تعبیر میں خیر نہیں ہوگی اور عنقریب خواب دیکھنے والے کو کسی تکلیف اور دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔

● اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس گھوڑے پر سوار ہے جو ریس میں لگایا جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا عنقریب مر جائے گا۔

● اگر کوئی حاملہ عورت گھوڑے کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب اس کے ایسا فرزند ہوگا جو بچن کارے گا اور دنیا میں مشہور ہوگا۔

● اگر کوئی خواب میں چنگیرا گھوڑا دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب خواب دیکھنے والا مال دار ہو جائے گا۔

● اگر کسی نے دیکھا کہ وہ زرد رنگ کے گھوڑے پر سوار ہے تو عنقریب وہ بیمار ہو جائے گا۔

● اگر سرخ گھوڑے پر سوار خود کو دیکھا تو کوئی غم پیش آنے والا ہوگا۔

● اگر کسی نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھگانے کے لئے ایڑا مار رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب وہ نفسانی خواہشات کا شکار ہو جائے گا۔

● اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ گھوڑے پر تھا اور اب اتر رہا ہے تو وہ کسی عہدے سے جلد ہی معزول ہو جائے گا۔

● اگر کسی نے لمبی دم کا گھوڑا خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے بہت اولاد ہوگی۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۹۱

کتبہ روحانی دنیا دیوبند

● اگر کسی نے دم کٹا گھوڑا خواب میں دیکھا تو اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو سر جائے گی۔

● اگر کسی نے خود کو ایسے گھوڑے پر سوار دیکھا جس کی لگام نہیں ہے تو عنقریب اس کا تعلق کسی بد عورت سے قائم ہوگا۔

● اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑے کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب وہ نیک نام مشہور ہوگا۔

● ایک شخص علامہ ابن سیرینؒ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی ایسے گھوڑے پر سوار ہوں جس کی ٹانگیں لوہے کی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟

علامہ ابن سیرینؒ نے جواب دیا کہ عنقریب وہ فوت ہو جائے گا، چنانچہ ایک ہفتے کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔

لومڑی

● خواب میں لومڑی کو دیکھنے کی تعبیر بالعموم عورت سے دی جائے گی۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ لومڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عنقریب کسی عورت سے شادی کرے گا اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بے حد محبت کریں گے۔

● اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ لومڑی سے اس کا جھگڑا ہو رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا جھگڑا اس شخص سے ہونے والا ہے جس سے خواب دیکھنے والے نے قرض لے رکھا ہے۔

● اگر کسی نے خواب میں خود کو لومڑی پر سوار دیکھا، تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب کسی

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۹۲ مکتبہ روحانی دنیا دیوبند

چالاک اور مکار انسان سے سابقہ پڑے گا لیکن وہ قابو نہ پاسکے گا بلکہ خود ہی مغلوب ہو جائے گا۔

• اگر کسی نے خواب میں لومڑی کا گوشت کھایا تو تعبیر یہ ہوگی کہ تجارت کا مال نفع کھانے سے کوئی بیماری پیدا ہوگی مگر پھر صحت نصیب ہو جائے گی۔

• اگر خواب میں دیکھا کہ لومڑی کا گوشت کھانے کی وجہ سے تے ہوگی تو پھر مال حلال کے ذریعہ جان لیوا نقصان ہوئے گا۔

• اگر کسی نے خواب میں لومڑی کا پورہ لیا تو تعبیر یہ ہوگی کہ کسی خواہ صورت لڑکی سے شادی ہونے والی ہے۔

• اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے لومڑی کو مار ڈالا۔ تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ غمخیز یا سب کے ہاتھ سے کسی شریف انسان کا قتل ہونے والا ہے۔

• اگر کسی نے خواب میں لومڑی کا دودھ پیا تو مطلب یہ ہوگا کہ بیماری سے نجات ملنے والی ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا صحت مند ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایسی بیماری پیش آنے والی ہے جس کے بعد شفا نصیب ہو جائے گی۔ موت اس بیماری میں نہیں آئے گی۔

• اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ لومڑی حملہ کر رہی ہے تو رشتے داروں کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔

مرغی

• مرغیوں کو خواب میں دیکھنا ذلیل و خوار عورتوں کی طرف اشارہ ہے۔

• بعض لوگ مرغی کی تعبیر بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے بھی دیتے ہیں۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۹۳ مکتبہ روحانی دنیا دیوبند

• اگر کوئی مریض خواب میں مرغی دیکھے تو یہ صحت ملنے کی علامت ہے۔ بشرطیکہ مرغی سفید یا سرخ ہو۔

• اگر خواب میں کوئی کالی مرغی دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ کسی بے وقوف عورت سے شادی ہونے والی ہے۔

• اگر کوئی خواب میں چٹلی مرغی دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ کسی عینار اور مکار سے نکاح ہونے والا ہے۔

• اگر کوئی خواب میں مرغیوں کو انڈا دیتے دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے گھر میں حرام اولاد پیدا ہونے والی ہے۔

• اگر کوئی خواب میں مرغی کو کڑکڑاتے دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا فاسق و فاجر ہے۔

• اگر مرغی کے انڈے رکھے دیکھے تو شریف اور پاک دامن عورت ملنے کی طرف اشارہ ہے۔

• اگر خواب میں دیکھے کہ وہ کچا انڈا کھا رہا ہے تو مال حرام ملنے کی طرف اشارہ ہے۔

• اگر حاملہ عورت دیکھے کہ اس کو صاف کیا ہوا انڈا دیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے لڑکی پیدا ہوگی۔

• اگر کسی کو خواب میں دیکھے کہ وہ انڈا چھیل کر سفیدی کھا رہا ہے اور زردی پھینک رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ کفن چور ہے۔



مرغا

- اگر کسی نے خواب میں مرغے کو اذان دیتے ہوئے دیکھا تو علامت یہ ہوگی کہ وہ دوسروں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا۔
- اگر کسی نے مرغا خواب میں دیکھا تو یہ ایک زائد شادی کی طرف اشارہ ہے۔
- اگر کسی نے مرغے کو دانہ چلکتے ہوئے دیکھا تو گھر میں چوری ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
- ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ مرغا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنا خواب علامہ ابن سیرین سے بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو تین دن میں مر جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تین روز کے بعد وہ شخص مر گیا۔
- اگر کسی نے خواب میں مرغے کو مرغی پر سوار دیکھا ہے تو یہ اولاد بد کی طرف اشارہ ہے کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ بے کردار ہوگی۔

مکھی

- اگر کسی نے خواب میں مکھیوں کو بھسنانے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دشمن بہت ہیں لیکن سب اس کے مقابلے میں کمزور ہیں اور کبھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتے۔
- اگر کسی نے مکھیوں کو خاموش دیکھا تو یہ مال ملنے کی طرف اشارہ ہے۔
- اگر کسی نے مکھیوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو یہ بیماریوں اور پریشانیوں کے آنے کی طرف اشارہ ہے۔

مچھلی

- اگر کسی نے خواب میں مچھلیاں دیکھیں تو ایک سے چار تک جتنی تعداد میں مچھلیاں دیکھے گا، اس کی اتنی ہی شادیاں ہوں گی۔
- اگر کسی نے تالاب سے مچھلی پکڑتے ہوئے خواب میں دیکھا تو بھلائی اور خوبی ملنے کی طرف اشارہ ہے۔
- اگر کوئی شخص دوران سفر میں خواب میں دیکھے کہ اس کے بستر پر مچھلی ہے تو یہ دوران سفر پریشانی آنے کی طرف اشارہ ہے۔
- اگر کسی نے دیکھا کہ کنوئیں میں سے مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے لوٹنے کی علامت ہے۔
- کسی نے مچھلی کو اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیکھا تو یہ لڑکی پیدا ہونے کی علامت ہے۔
- مچھلیوں کو خشکی میں تڑپتا ہوا دیکھنا مصائب آنے کی طرف اشارہ ہے۔

مینڈک

- خواب میں ایک مینڈک دیکھنا کسی مرد صالح سے ملاقات کی نشانی ہے۔
- خواب میں بہت سارے مینڈک ایک ساتھ دیکھنا مصائب میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔
- اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے چاروں طرف مینڈک بیٹھے ہوئے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ رشتے داروں کے درمیان اچھی زندگی گزارے گا۔
- اگر کوئی خواب میں مینڈک کا گوشت کھاتا دیکھے تو یہ پریشانی میں گرفتار

ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
 اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مینڈک سے جو گفتگو ہے تو اس کو کوئی عہدہ ملنے والا ہے۔

مور

اگر کوئی صاحب حسن خواب میں مور دیکھے تو تکبر، و گھمنڈ کی طرف اشارہ ہے۔
 اگر کوئی صاحب مال مور خواب میں دیکھے تو یہ زوالِ نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ غریب غربت کا در شروع ہونے والا ہے۔
 اگر کوئی نرہ آدمی خواب میں مور کو ناپتے ہوئے دیکھے تو یہ خوبصورت بیوی ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن قسمت کے اعتبار سے وہ اچھی نہیں ہوگی۔
 اگر کوئی خواب میں مور کو اڑتے ہوئے دیکھے تو کسی عجمی بادشاہ سے ملاقات کی دلیل ہے۔
 خواب میں مور کو چلنے ہوئے دیکھنا بربادی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
 خواب میں مور کو روتے ہوئے دیکھنا بدبختی کی نشانی ہے۔
 اگر کوئی خواب میں مور اور مورنی کو ایک ساتھ دیکھے تو میاں بیوی کے بچھڑنے کی دلیل ہے۔

مکڑی

مکڑی خواب میں دیکھنا صحت کے گرنے کی طرف اشارہ ہے۔
 اگر خواب میں کوئی شخص مکڑی کے جا لے تھے ہوئے دیکھے تو گھر میں

بربادی اور خسرت پھیلنے کی علامت ہے۔
 اگر کوئی خواب میں مکڑی کو جا لے میں دیکھے یہ بیوی کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے۔

مگر چمچ

خواب میں مگر چمچ بدترین دشمن کی شکل میں آتا ہے۔
 اگر کسی نے خواب میں مگر چمچ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کوئی قوی دشمن اس پر حملہ کرنے والا ہے۔
 اگر کسی نے خواب میں مگر چمچ کو مردہ دیکھا تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کوئی دشمن مر گیا ہے یا مرجائے گا۔
 اگر کسی نے خواب میں مگر چمچ کے ٹکڑے دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اسے دشمن کی طرف سے مال ملنے والا ہے۔

مینڈھا

اگر کسی نے خواب میں مینڈھے کو دیکھا تو یہ کسی اچھے انسان سے ملنے کی دلیل ہے۔
 اگر کسی شخص نے خواب میں کسی مینڈھے کے خفیہ مقام کو دیکھا تو کسی شریف انسان کی لڑکی سے شادی ہونے کی علامت ہے۔
 اگر کسی نے دیکھا کہ وہ مینڈھے کو ذبح کر رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی شریف انسان کو قتل کرے گا۔
 اگر کسی بیمار نے خواب میں کسی مینڈھے کو مار ڈالا تو یہ صحت نصیب ہونے کی

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۱۰۱ مکتبہ روحانی دنیا دیوبند

• ہوگی کہ اسے کوئی بھلائی پہنچنے والی ہے۔

• اگر کسی نے مرزا و ہاتھی خواب میں دیکھا تو تعبیر یہ ہوگی کہ حاکم دلت کا کوئی مقرب شخص فوت ہو جائے گا۔

• اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھی نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے تو اچانک خواب دیکھنے والے کی موت ہو جائے گی۔

• اگر کسی نے ایسے علاقے میں ہاتھی کو بھاگتے ہوئے خواب میں دیکھا جہاں باعوم ہاتھی نہیں ہوتے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہاں عنقریب کوئی فتنہ و فساد برپا ہوگا۔

• اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھیوں کا ریوڑ کسی شہر میں داخل ہو رہا ہے تو یہ طاعون پھیلنے کی علامت ہے۔

• اگر کسی شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہو اور وہاں کوئی یہ خواب دیکھے کہ ہاتھیوں کا ریوڑ شہر سے نکل رہا ہے تو یہ طاعون ختم ہونے کی علامت ہے۔

• ہاتھی کو چنگھاڑتے ہوئے دیکھنا اچھی علامت نہیں، اگر کنوارہ یہ خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی شادی کسی بد اخلاق عورت سے ہوگی اور اگر شادی شدہ آدمی یہ خواب دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی بیوی اس سے طلاق حاصل کرے گی۔

تہدہد

• اگر کوئی شخص ہد ہد کو خواب میں دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اسے عنقریب مال و دولت حاصل ہوگی۔

• اگر کسی نے ہد ہد کو بوتلے ہوئے دیکھا تو جلد ہی کوئی مرتبہ حاصل ہوگا۔

• اگر کسی نے ہد ہد کا ڈالتے ہوئے دیکھا تو یہ کسی 'سہمان' کے آنے کی علامت

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۱۰۰ مکتبہ روحانی دنیا دیوبند

• یہ تعبیر افسانہ کی گئی ہے دراصل عربوں کی ایک جہالت سے، بعثت اسلام سے پہلے عرب کے بعض قبائل کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حلاق دے دیتا تھا تو اس کو ہاتھی پر بٹھا کر اس کا جلوس نکالتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی۔

• اگر کوئی حاکم یہ زمانہ جنگ یہ دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عنقریب ہلاک ہو جائے گا۔

• اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ ہودج والے ہاتھی پر بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب وہ بے حد مال دار ہو جائے گا، بشرطیکہ وہ تاجر ہو، لیکن اگر وہ ملازم پیشہ ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا تبادلہ ہو جائے گا، اگر یہی خواب کنوارا انسان دیکھے تو عنقریب اس کی کسی صحت مند اور خوب رو عورت سے شادی ہوگی اور وہ مال بھی ساتھ لائے گی۔

• اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہاتھی اس پر حملہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے حاکم دلت کی طرف سے کوئی صدمہ پہنچے گا۔

• اگر یہی خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔

• اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہاتھی کو باندھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی شخص سے دوستی کرے گا اور یہ دوستی مالی طور پر اسے فائدہ پہنچائے گی۔

• اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہتھی کا دودھ نکال رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ مکر و فریب کے ذریعہ مال و دولت حاصل کرے گا۔

• اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھی اس کے پیچھے چل رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اسے عنقریب اقتدار نصیب ہوگا۔

• اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھی نے اس کے سینہ مارا ہے تو تعبیر یہ

متفرقات

الف

● اونٹ کا گوشت کھانا : بیماری اٹھائے لیکن لازمی حلال ہاتھ لگے۔

● اونٹ دیکھنا : اگر اونٹ کی لگام ہاتھ میں ہے تو دنیا قبضہ میں آئے گی لیکن خود

دنیا سے بے نیاز ہوگا۔ اگر لگام ہاتھ میں نہیں ہے تو دنیا ہاتھ لگے گی لیکن خود بھی دنیا کی

طرف متوجہ رہے گا۔

● اونٹ کی طرف دیکھنا : مال ضائع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

ب

● بچھو کا گوشت کھانا : اپنے دشمن سے مال پانے کی طرف اشارہ ہے۔

● بچھو کو ڈنک مارتے دیکھنا : اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن غیبت اور

بدگوئی میں مبتلا رہے گا۔

● بچھو کو مار ڈالنا : دشمن پر غالب ہونے کی دلیل ہے۔

● بچھو سے دوسروں کو ٹوٹانا : خواب دیکھنے والا دوسروں کی غیبت میں مبتلا

ہے۔ اس سے پرہیز کرے۔

● باز دیکھنے سے : کامیابی ملنے کی طرف اشارہ ہے۔

● فریبتیل دیکھنا : مال آنے کی علامت ہے۔

● بکریوں کا ریوڑ دیکھنا : کسی جماعت کا امیر بننے کی طرف اشارہ ہے۔

● حکومت ملنے کی بھی دلیل ہے۔

ہے۔

● اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے ہدہ کو پکڑ لیا ہے تو یہ کسی خوف اور اندیشے سے

نجات مل جانے کی علامت ہے۔

● اگر کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ ہدہ کا شکار کر رہا ہے تو یہ اس بات کی

علامت ہے کہ اسے کچھ مسائل کا سامنا ہے۔


● اگر دیکھا کہ ہدہ اس کے جال میں پھنس گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ

مسائل حل ہو جائیں گے۔

● اگر دیکھا کہ ہدہ ہڑ گیا تو یہ مسائل میں الجھے رہنے کی علامت ہے۔

● اگر کسی نے ہدہ کو پانی پیتے ہوئے دیکھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ

خواب دیکھنے والے کی اہم خواہش پوری ہوگی۔



جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۱۰۵ کتبہ روحانی دنیا، دیوبند

خ

- خرگوش دیکھنا : عورت ملنے کی طرف اشارہ ہے۔
- خچر کا دودھ پینا : تنگی مصائب کی طرف اشارہ ہے۔
- خچر پر خود کو سوار دیکھنا : اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے گا۔
- خچر کا گوشت کھانا : خراب عورت کے ذریعہ مال آئے گا اور بے جا خرچ ہوگا

ز

- زنبور یعنی بھرتہ دیکھنا : بے وقوفی کی دلیل ہے۔ صاحب خواب سے کوئی بے وقوفی سرزد ہوگی۔

س

- سیرخ کا دیکھنا : بزرگی ملنے کی دلیل ہے۔
- سانپ کو اپنے اوپر گرتے دیکھنا : کسی حاکم سے رنج پہنچے گا۔
- سانپ گود میں لینا : لڑکا شریر پیدا ہوگا جس سے ہمیشہ رنج ملے۔
- سانپ کو ناپتے دیکھنا : دشمن سے نفع حاصل ہے۔
- سانپ کا گوشت کھانا : دشمن سے مال ملے۔
- سانپ کے بچے دیکھنا : برادری میں چھوٹ پڑنے کی دلیل ہے۔
- سانپ کو مارنا : دشمن پر غالب آنے کی دلیل ہے۔

ش

- شیر کو تھل کرتے دیکھنا : معاشرہ میں فتنہ برپا ہونے کی دلیل ہے۔
- شیرنی کا دودھ پینا : دشمن پر غالب آنے کی دلیل ہے۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۱۰۴ کتبہ روحانی دنیا، دیوبند

- بیل کا گوشت کھانا : روزی مشقت سے ملے گی مگر حلال ہوگی۔
- بھینس دیکھنا : رنج و غم کی دلیل ہے۔
- بکری کا دودھ پینا : عیش و عشرت کی دلیل ہے۔
- بندر یا ملی کا پیچہ مارنا : کم عمری کی طرف اشارہ ہے۔
- بڑی مچھلی دیکھنا : شادی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر شادی شدہ دیکھے تو عورت کی طرف سے راحت ملنے کی طرف اشارہ ہے۔

پ

- پرندوں کو اڑتے دیکھنا : مال ملنے کی طرف اشارہ ہے۔

ت

- تیترو دیکھنا : مال ہاتھ آئے گا۔

ث

- ٹٹئی دیکھنا : سروراری ملنے کی طرف اشارہ ہے۔
- تھو پر سوار دیکھنا : سفر تجارت درپیش ہوگا۔

ج

- جو تک دیکھنا : بیماری کی علامت ہے۔

چ

- چیل دیکھنا : درازی عمر کی طرف اشارہ ہے۔
- چوہا دیکھنا : بری عورت کی طرف اشارہ ہے۔
- چھوٹی مچھلیاں دیکھنا : رنج و غم کی دلیل ہے۔

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۱۰۶ مکتبہ روحانی دنیا ریویونر

- شتر بے مہار دیکھنا : بدکاری کی علامت ہے۔
- شیر کا گھر میں داخل ہونا : رتبہ عظیم ملنے کی دلیل ہے۔
- شیر کا گوشت کھانا : کسی جاہل سے رقم ملنے کی علامت ہے۔
- شیر سے لڑنا : کسی زبردست دشمن سے مقابلہ کرنے کی دلیل ہے۔

ف

- فاختہ دیکھنا : امیری سے غربت کی طرف اشارہ ہے۔
- کبوتر کا دیکھنا : کوئی اچھی خبر ملنے کی دلیل ہے۔
- کتے کو بھونکنے کا دیکھنا : دشمنوں کے درپے آزار ہونے کی دلیل ہے۔
- کوا دیکھنا : بولنا دیکھے تو مہمان آنے کی دلیل ہے۔ اگر خاموش دیکھے تو رخ اٹھانے کی دلیل ہے۔

- کان میں چیونٹی گھسنے دیکھنا : موت آنے کی دلیل ہے۔
- مراہوا کو ادا دیکھنا : رزق میں کمی پیدا ہونے کی دلیل ہے۔

گ

- گھریلو چیز یا دیکھنا : مال ملنے کی علامت ہے۔
- گھوڑے کو شوشی کرتے دیکھنا : کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔
- گدھے کو دیکھنا : مال تجارت میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔
- گدھے کا گوشت کھانا : مال حرام ملنے کی طرف اشارہ ہے۔
- گھوڑے کو اپنے مکان سے نکلنے دیکھنا : مکان سے یا محلے سے نکلنے کی

جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ۱۰۷ مکتبہ روحانی دنیا ریویونر

- دھیل ہے۔
- گھوڑی پر سوار ہونا : کسی شریف عورت سے نکاح کی دلیل ہے۔
- گائے دیکھنا : اگر سوئی ہے تو مال دار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر دہلی پتلی ہے تو پریشانی آنے کی طرف اشارہ ہے۔

- گدھے پر سوار ہونا : اگر رخ مغرب کی طرف ہو تو حج کی طرف اشارہ ہے۔ اگر رخ کسی اور طرف ہے تو کسی حماقت میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
- گھوڑے پر کسی کے ساتھ سوار دیکھنا : صاحب خواب کو اس بات کا اشارہ ہے جو ساتھ ہے اس کی معرفت کوئی عہدہ حاصل ہوگا۔

م

- مرغابی دیکھنا : خوشی ملنے کی علامت ہے۔






ہ

- ہرن دیکھنا : اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی ہونے کی طرف اشارہ ہے، اگر کنواری دیکھے تو کسی لڑکی سے محبت ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
- ہرن کا بچہ دیکھنا : کوئی مراد پوری ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
- ہاتھی پر خود کو سوار دیکھنا : بلند مقام ملنے کی علامت ہے۔
- ہاتھی کو حملہ کرتے دیکھنا : کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔



مولانا حسن الہاشمی صاحب کی تصانیف

www.iqbalkalmati.blogspot.com



MAKTABA ROOHANI DUNYA

MOHALLA ABULMALI, DEOBAND-247554 (U.P.)

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

JANWARON KE FAIDE RS.45/=

anish
Aamri